

اولیٰ سلسلہ کتابیں

بقیہ

JULY 2006

مفت سلسلہ اشاعتیں نمبر 147

# امریکی افواج قرآن



مؤلف

پسٹا احقر مصباحی

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار کراچی ۷۴۰۰۰

## پیش لفظ

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کی اہانت و تحریف کی ناکام کوشش کوئی نئی بات نہیں پہلے کافروں نے بھی اس کی توہین کرتے ہوئے اسے قولی شاعر و غیرہ کہا اور بارہا اس میں تحریف و تبدیلی کی ناکام کوششیں کیں۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ واحد القہار کی وحدانیت پر ایمان کے مدعی تھے۔ جیسے جموں نے مدعیان نبوت جنہوں نے قرآن کی مثل کلام لانے کی ناکام سعی کی۔ ایسا کرنے سے انہیں کب منع کیا گیا قرآن نے تو خود ان کو پہنچ گیا کہ اگر تم بچے ہو تو اس جیسا کلام بنانا و ایک سورت ہی بنا کر دکھا دو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوشش نہ کی ہوگی۔ یہ وہ لوگ تھے جو دن رات اسلام کو ختم کرنے کے بارے میں ہی سوچتے تھے۔ اسلام لانے والوں کو اذیتیں دینا مہاجرین کو ان کے آہلی وطن چھوڑنے پر مجبور کرنا، جنگ بدر و جنگ احد وغیرہ سب اس کے ثبوت ہیں۔ ایسی سوچ رکھنے والوں کو اپنی سہمی کے ثبوت میں جب قرآن کی مثل ایک سورت بنا کر لانے کی دعوت ملی۔ تو انہوں نے اپنے تمام سہمی برائے کار لانے ہوں گے اپنی ساری کوششیں صرف کی ہوں گی۔ مگر کامیاب نہ ہوئے۔ تو آج کے کافر بھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس مقدس کلام کی حفاظت پر دروکار عالم نے اپنے اے لی ہے ہائی فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت کے مسلمان ایمان میں پختہ عقیدے میں مضبوط اور مل میں ہے آج ان دن ایمان کی پختگی ہے نہ عقیدے کی وہ مضبوطی ہے نہ ہی عمل کی سچائی ہے۔ اس لئے عوام المسلمین کے بہک جانے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ لہذا ایسے مواقع پر مسلمان عوام کی رہنمائی اشد ضروری ہے کیونکہ یہود و نصاریٰ وغیرہ نے اس کام کے لئے ایسے نام نہاد مسلمان مفکرین کو پختا ہے جو لفظی میں بڑے ماہر و عیاری میں اپنا غائی نہیں رکھتے۔ طوع میں زہر ڈال کر کھلانے والے قرآن وحدیث کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے، دین کے نام پر بے دینی کی تعلیم دینے والے ہیں اور پھر ان افکار و نظریات گھر گھر پہنچانے کے لئے پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک میڈیا کا سہارا لیا گیا ہے اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام الناس کھلے عام نفوس قطعہ کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے قطعی احکام پر اعتراض کرتے، قرآن کے فیصلوں کا انکار کرتے، احادیث نبویہ پر جرح کرتے اور ائمہ مجتہدین پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے جس کا صحیح اثر چندہ بیس سال بعد ظاہر ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ابھی سے اس کا تدارک کیا جائے قبل اس کے کہ یہ ایجنٹ مزید بگاڑ پیدا کریں اور عورتوں کا مردوں کی امامت کرنا وغیرہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ دشمنان اسلام کی منظم اور مسلسل سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لئے پیہم اجتماعی کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے اور علامہ حسین اختر مصباحی صاحب کی تحریروں اور پہلی بار مکتبہ کنز الایمان دہلی ۶-2005ء میں اسے منظر عام پر لانا اور دوسری بار جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کا اپنے مفت سلسلہ اشاعت میں شائع کرنا اسی کوشش کا حصہ ہے۔ جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان اس سے قبل اپنے مفت سلسلہ اشاعت میں اپنے ہی دارالافتاء سے جاری شدہ ایک مدلل تحقیقی فتویٰ "عورت کی اقتداء" کے نام سے ایک رسالہ کی صورت میں شائع کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مساعی کو اپنے حبیب کے طفیل قبول فرمائے آمین ثم آمین

فقط..... محمد عطاء اللہ النعیمی

## اہانتِ قرآن و امامتِ نسواں

- قرآن حکیم کتب و صحف ساویہ میں آخری کتاب ہے جو نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن و مجنوں کی اختراعی بات ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (سورۃ الحج: آیت ۲۱ تا ۲۳) اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں تم کتنا یقین رکھتے ہو اور نہ کسی کاہن کی بات ہے تم کتنا یاد رکھتے ہو۔ اسے اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كِرْهُونَ (سورۃ المؤمن: آیت ۷) یا کہتے ہیں اسے سودا ہے۔ بلکہ وہ تو ان کے پاس حق (قرآن) لائے اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے۔

یہ انسانی و بشری کلام نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جس کی قرآن حکیم میں جگہ جگہ اور بار بار صراحت کی گئی ہے۔ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (سورۃ الجاثیہ: آیت ۲، سورۃ الاحقاف: آیت ۲، سورۃ الزمر: آیت ۱) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (سورۃ المؤمن: آیت ۲)

اللہ کی جانب سے جبرئیل امین اس قرآن کو لے کر پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (سورۃ الشعراء: آیت ۱۹۲ تا ۱۹۶) اور بیشک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اسے روح امین (جبرئیل) لے کر نازل ہوئے۔ تمہارے دل پر کہ لوگوں کو (خوفِ آخرت سے) ڈراؤ۔ یہ روشن عربی زبان میں ہے۔ اور بیشک اس

(قرآن) کا چرچا گذشتہ کتابوں میں ہے۔

اس قرآن میں نہ کوئی کمی ہے نہ کسی طرح کی کمی ہے نہ اس میں کوئی اختلاف ہے اور نہ اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (سورۃ النحل: آیت ۸۹) اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (سورۃ الکہف: آیت ۱) سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً کمی نہ رکھی۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا (سورۃ النساء: آیت ۸۲) تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور وہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے۔

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (سورۃ البقرہ: آیت ۲) اس بلند مرتبہ کتاب میں شک کی کوئی جگہ نہیں۔ اس میں (غدا سے) ڈر رکھنے والوں کے لئے ہدایت ہے۔

قرآن سن کر اور اسے پڑھ کر بہت سے نیک بخت انسان ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ بد نصیب لوگ اپنی شامت نفس سے گمراہی کے دلدل میں ہی پھنسے رہ جاتے ہیں۔ يُخْضَلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدَىٰ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُخْضَلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (سورۃ البقرہ: آیت ۲۶) اللہ اس کے ذریعہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ اور اس سے انہیں ہی گمراہ کرتا ہے جو نافرمان بندے ہیں۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَخْضَلُ عَلَيْهَا (سورۃ الامر: آیت ۴۱) بیشک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لئے حق کے ساتھ اتاری ہے تو جو ہدایت پائے وہ اس کے بھلے کے لئے ہے اور جو گمراہ ہوا وہ اپنی ہی برائی سے گمراہ ہوا۔

ان روشن حقائق کے باوجود اگر کچھ لوگ مکابرہ و عناد پر آمادہ ہیں اور ان کا اصرار

ہے کہ قرآن حکیم کلام خالق نہیں بلکہ کلام مخلوق ہے تو ایسے لوگوں کے لئے قیامت تک اس کلام الہی کا پیچھے ہے کہ سارے منکر و مخالف فصحاء و بلغاء عرب اور دنیا بھر کے اہل علم و دانش و ارباب زبان و ادب مل کر اس کا کوئی جواب پورا نہیں بلکہ چند سورتوں کا، بلکہ کسی ایک سورت کا ہی تیار کر دیں۔ مگر چودہ سو سال سے یہ پیچھے اب تک لا جواب ہے۔

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (سورۃ بنی اسرائیل: آیت ۸۸)

تم فرماؤ! اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لاسکیں گے اگر چہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (سورۃ البقرہ: آیت ۲۳، ۲۴)

اگر تمہیں کچھ شک ہے اس میں جسے ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک سورت تولے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لاسکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لاسکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جو کافروں کے واسطے تیار رکھی ہے۔

اس منزل من اللہ قرآن حکیم کا کوئی جواب نہ کسی سے بھی بن پڑا نہ آئندہ اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے۔ نزول قرآن سے اب تک اس میں ایک سورت و آیت نہیں بلکہ ایک لفظ کی بھی کوئی کمی بیشی نہ کر سکا نہ کبھی کر سکے گا۔ کیوں کہ اس کی حفاظت و صیانت خود خالق کائنات نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (سورۃ الحجر: آیت ۹) بیشک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بیشک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔

قرآن حکیم کو جھٹلانے والے، اس کی توہین کرنے والے، اس کا تسخر اڑانے

والے، اس کا جواب لکھنے کی کوشش کرنے والے، اس پر اعتراضات اور حملے کرنے والے، نہ جانے کتنے آئے گئے اور مٹ گئے جن کا آج کوئی نام لیا بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کا حشر فرعون و نمرود اور عاد و ثمود جیسا ہوا اور ہوتا رہے گا۔ پھر یہ امریکی و برطانوی و اسرائیلی خردماغ دانشور اور شاطر لیڈر و مکار فلک کار کس کھیت کی مولیٰ ہیں؟ کس شمار و قطار میں ہیں؟ یہ قرآن لاکھوں مسلمانوں کے سینے میں ہی نہیں رچا بسا ہے بلکہ لوح محفوظ کی بھی امانت ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ - فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ - بَلِ الَّذِينَ فِي تَكْوِينِ  
وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ - بَلِ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ - (سورة  
البروج، آیت ۷۷ تا ۷۹)

کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ فرعون اور ثمود کی۔ بلکہ کافر جھٹلانے میں لگے ہیں۔ اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ مجدد شرف والا قرآن ہے۔ جو لوح محفوظ میں ہے۔



انسان اس کائنات کے اندر خالق کائنات کی شاہکار تخلیق ہے۔ تمام مخلوقات و موجودات پر اسے شرف و بزرگی اور برتری حاصل ہے۔ قلب و دماغ اور علم و تدبیر میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ حسن سیرت و صورت میں یہ انسان بے مثال اور بے نظیر ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا - (سورة بنی  
اسرائیل: آیت ۷۰)

اور بیشک ہم نے اولادِ آدم کو عزت دی۔ اور ان کو خشکی و تری میں سوار کیا۔ اور انہیں پاکیزہ رزق دیا۔ اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - (سورة التین: آیت ۴) بیشک ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت پر بنایا۔

اللہ کی مشیت اور اس کی مصلحت کے مطابق انسانوں کی دینی و دنیوی زندگی کے

بھی مختلف مدارج و طبقات ہیں۔ باعتبار شرف و فضیلت انسانوں کے بھی متعدد درجات ہیں اور انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ - (سورة الزخرف: آیت ۳۲)

ہم نے ان (انسانوں) میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ - (سورة الاعراف: آیت ۱۶۵) اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی۔

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآجِزَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ  
وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا - (سورة بنی اسرائیل: آیت ۲۱) دیکھو ہم نے ان میں ایک کو ایک پر کیسی بڑائی دی؟ اور بیشک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلیٰ ہے۔

سارے انسانوں کے درمیان طبقہ انبیاء و مرسلین کو خصوصی منزلت و فضیلت حاصل ہے جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ اور ان کا یہ شرف نبوت و رسالت اکسائی نہیں بلکہ وہی ہے اور اللہ جسے چاہے اسے اپنی رحمت خاص سے نوازے۔ اس سلسلہ نبوت و رسالت کا اختتام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا جو سید الانبیاء والمرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ - (سورة بنی اسرائیل: آیت ۵۵) اور بیشک ہم نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی۔

بَلِّغْ الرُّسُلَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ  
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ - (سورة البقرہ: آیت ۲۵۳) یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر



درجوں بلند کیا۔

متعدد وجہ سے مرد کو عورت پر فضیلت و برتری سے نوازا گیا ہے جو قانونِ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسی اصول کی پابندی میں حسن معاشرت کا راز پنہاں ہے اور اسی میں دین و دنیا کی بھلائی بھی ہے۔ نبوت و خلافت و امامت و جہاد و اذان و خطبہ و جمعہ مرد ہی کا حصہ ہے۔ نسب کی نسبت بھی مرد ہی کی طرف کی جاتی ہے۔ اور وراثت میں انہیں بحکم قرآن دو نا حصہ ملتا ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (سورۃ نساء: آیت ۳۴)

مرد عورتوں کے گمراہ ہیں اس لئے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اور اس لئے کہ مرد اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورۃ البقرہ: آیت ۲۲۸)

اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ان کے شوہروں کا ہے اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

خود عورتوں کے درمیان بھی تفاوت اور فرق مراتب ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ  
يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (سورہ آل عمران: آیت ۴۲)

اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم! بیشک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے خوب پاکیزہ بنایا۔ اور آج سارے جہاں کی عورتوں میں تو منتخب و پسندیدہ ہے۔

يُنْسَاةَ النَّسَبِ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ (سورۃ الاحزاب: آیت ۳۲)  
اے نبی کی بیویو! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (سورۃ الاحزاب: آیت ۶) اور نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔

مجد و شرف اور فضیلت و کرامت میں جس طرح مرد کے درجات و مراتب کا فرق ہے اسی طرح عورتوں کے درمیان بھی تفاوت ہے جس کا لحاظ دین میں بھی ہے

اور دنیا میں بھی ہے۔ اور اگر ظاہری و عمومی طور پر مساوات ہے تو صرف بشریت و انسانیت اور آدمیت کا مساوات ہے کہ سب کے سب فرزند آدم ہیں۔ ایک جان سے پیدا ہیں اور آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اس لئے مساوات مرد و زن کا نعرہ بے بنیاد و بے جان اور امریکہ و کناڈا سے ابھرنے والی صدائے امامت!

ع۔ ایک سازش ہے فقط دین و شریعت کے خلاف۔

شریعت اسلامیہ نے جس ایمان اور علم و عمل کو مقصود انسانیت قرار دیا ہے بس وہی کافی ہے مرد و زن کی ہدایت اور فلاح و سعادت کے لئے اور اسے ہی اہل ایمان و ذخیرہ آخرت اور وسیلہ نجات بھی سمجھتے ہیں۔

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (سورۃ العصر)

اور تم ہے زمانہ کی۔ بیشک انسان ضرور گھمٹائے میں ہے۔ مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی ہدایت دی۔

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (سورۃ المجادلہ: آیت ۱۱)

اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
(سورۃ الحجرات: آیت ۱۳)

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد (آدم) اور ایک عورت (حوا) سے پیدا کیا۔ اور تمہیں شاخ اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بیشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقویٰ و پرہیزگاری والا ہے۔ بیشک اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔

اہانت قرآن و امامت نسواں (قرآن کی توہین و تحقیر اور عورتوں کی امامت نماز) کا نکتہ یہودی ذہن کی پیداوار ہے جس کا آغاز نجوم امریکان برعراق و افغان سے ہوا ہے۔ تقریباً پندرہ سال پہلے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد زبردست منصوبہ بندی اور پوری قوت و طاقت کے ساتھ یہودی لابی کی سرکردگی میں ریاستہائے متحدہ امریکہ نے اسلام اور عالم اسلام کے خلاف آتشیں محاذ کھول دیا ہے اور خود اپنے سازشی حملہ ۹/۱۱ (۹ ستمبر ۲۰۰۱ء) کو اس کا بہانہ بنا کر دنیا کی آنکھوں میں حصول جھوٹے کی پرفریب کوشش کی ہے۔ کیونکہ جب اپنی موت آپ مر گیا تو اس کی جگہ اسلام کو لاکھڑا کیا گیا اور اسے ہی اپنی فائرنگ و بمباری کا شب و روز نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

۹/۱۱ کے بعد اپنی ایک جذباتی تقریر میں جارج واکر بوش صدر امریکہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ Crusade (مذہبی جنگ / صلیبیت) ان کے دل کی آواز تھی جو بے ساختہ دنیا کے سامنے آگئی۔ اور افغانستان و عراق میں انصاف، آزادی، جمہوریت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی عملی تعبیر ہے اور ان کے انتقامی جذبات کا مظہر ہے۔

پندرہ سال کی مدت میں کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص ذہنیت اور طویل المیعاد منصوبہ کے تحت اصطلاحیں گڑھی جا رہی ہیں اور اپنے مزاج و نگر کے لحاظ سے ان کا معنی و مفہوم متعین کیا جا رہا ہے۔ پہلے بڑی سرعت کے ساتھ بنیاد پرستی (Fundamentalism) پھر دہشت گردی (Terrorism) کی اصطلاح وضع کی گئی اور اشارہ کنایہ میں ان کا مصداق مسلمانوں کو ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد مسلم دہشت گردی (Muslim Terrorism) اور پھر اسلامی دہشت گردی (Islamic Terrorism) پر اس کی تان ٹوٹی اور ان کے دل کا غبار ہلکا ہوا۔

امریکہ و یورپ میں اسلام کے بڑھتے قدم کو روکنے کی ان کے اندرونی دروہانی و اخلاقی قوت تو ہے نہیں اس لئے وہ طرح طرح کی چالیں اور نئے نئے حربے

آزمائے ہیں۔ سائنس و ٹکنالوجی کے فن اور عسکری قوت کو وہ اسلام و عالم اسلام کے خلاف اپنی شیطانی کھوپڑی کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ حقوق انسانی کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمہ کے نام پر قہر و جبر کی بجلیاں جہاں چاہتے ہیں وہاں گرا رہے ہیں اور امن عالم کی دہائی دے رہے ہیں۔ آزادی اور جمہوریت کا نعرہ لگا رہے ہیں اور سائنسی و صنعتی و تجارتی و سیاسی زنجیروں میں بے شمار مالک کو جکڑ رہے ہیں۔

”تہذیبی تصادم“ (Clash of Civilization) کے عنوان سے ایک نیا موضوع اس وقت اہل دانش و پیش کے درمیان موضوع بحث بنایا گیا ہے اور اس پر کتب و مقالات تحریر کر کے شائع کئے جا رہے ہیں۔ ۱۹۹۳ء میں امریکہ کے اندر ایک مشہور کتاب ”تہذیبوں کا تصادم اور عالمی نظام کی تشکیل“ کے نام سے منظر عام پر آئی۔ سابق امریکی صدر جی کارٹر انتظامیہ کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے ڈائریکٹر، امریکی پبلیکل سائنس ایسوسی ایشن کے پریسیڈنٹ، متعدد کتب و رسائل کے مصنف اور ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کے پروفیسر پی سومیٹل ہننگ ٹن (P. Samuel Hantingtan) اس کے مصنف ہیں۔ وہ اپنے متعصبانہ خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ۔

اسلامی بنیاد پرستی کا سرچشمہ جہاد ہے جو مغرب کے لئے عظیم خطرہ ہے۔ حکمران سے عوام تک اسلامی بیداری کی لہر چل رہی ہے۔ دانشور اور تعلیم یافتہ طبقہ اس سے زیادہ متاثر ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو تہذیبی رسوخ جاری ہے وہ نکلوں کے درمیان نہیں بلکہ خود تہذیبوں کے درمیان ہے جس میں ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی شدید کوشش و آدریش ہے۔ آگے چل کر یہ تصادم مغربی اور اسلامی تہذیب کے تصادم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور بالآخر مغربی تہذیب کی ہوگی (خلاصہ)

جب کہ دوسری طرف سابق مشیر امریکی حکمہ خارجہ پروفیسر جان ایل اسپوزیٹو (John L. Esposito) جارج ٹاؤن یونیورسٹی امریکہ نے بھی اس موضوع پر اپنی دو کتابوں میں ایک حد تک منصفانہ جائزہ لیا ہے (1) Un Holy War: Myth or Reality (2) Terror in the Name of Islam

مؤرخ الذکر ”اسلامی خطرہ وہم یا حقیقت“ میں اسپوز ٹیو لکھتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ امریکی معاشرہ اسلام کے تہذیبی اصول و مبادی اور بلند اخلاقی اقدار سے بالکل ناواقف ہے۔ اسے اس کی کوئی خبر نہیں کہ یورپ کے تاریک ترین ادوار میں اس پر اسلامی تہذیب کے کتنے اثرات و احسانات ہیں؟ جس وقت کہ وہ حساب، الجبر، طبیعیات، فلکیات، جغرافیہ، اور علوم عمرانیات کی بنیادی چیزوں سے بھی نا آشنا تھا اور اسلام نے ہی اسے ان چیزوں کی تعلیم دی تھی۔

دوسری حقیقت یہ ہے کہ اسلام مخالف عناصر بالخصوص اسرائیل نواز طاقتور یہودی لابی نے امریکیوں کی اسلام سے ناواہمی کو اپنے جمونے پر پکھنڈہ کے زور پر اپنے حق میں خوب استعمال کیا ہے۔ اور امریکیوں کے ذہن و دماغ میں اسلام کے بارے میں فطرتاً اور بے بنیاد باتیں بھردی ہیں۔

اپنے تجزیاتی مطالعہ میں اسپوز ٹیو ایک دوسری حقیقت کو اس طرح اجاگر کرتے ہیں۔

کچھ ایسا ہی متعصبانہ رویہ اس وقت بھی دیکھنے میں آتا ہے جب کسی مسلم ملک میں ایٹمی صلاحیت کی بات سامنے آتی ہے۔ کسی مسلم ملک مثلاً پاکستان یا ایران کی متوقع ایٹمی صلاحیت کا ذکر کرتے وقت یہ باور کرایا جاتا ہے کہ صیہونیت اور یورپ کے لئے مسلم ممالک کی ایٹمی صلاحیت ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ جب کہ امریکی یا اسرائیلی ایٹمی صلاحیت یا یہودی اور مسیحی ہم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کی جاتی ہیں۔“

ابوغریب جیل (بغداد) اور گوانتانامو بے جیل (کیوبا) میں مسلم قیدیوں کے ساتھ کی جانے والی شرمناک و انسانیت سوز حرکتیں اور قرآن حکیم کی دیدہ و دانستہ توہین یہودی و عیسائی لابی کی صیہونیت و صلیبیت اور اسلام دشمنی و قرآن دشمنی کے تازہ ترین دھشتناک نمونے ہیں۔ افغانستان و عراق پر بلا جواز حملے اور ان کی تباہی و بربادی دراصل عالم اسلام کی سرکوبی و تہلیل کے ساتھ اسرائیل کے دفاع کو ناقابل تخیل بنانے

اور دغاخ پٹرول و معدنیات پر قابض ہونے کے شاطرانہ حربے ہیں۔ اس پورے حادثاتی تسلسل کی ایک بڑی ہی افسوسناک کڑی یہ ہے کہ دنیا کا واحد مسلم ملک پاکستان جو ایٹمی صلاحیت کا مالک ہے وہ نہایت بزدلی و بے شرمی کے ساتھ امریکی دم چھلہ اور ایک امریکی کارٹونسٹ کے مطابق امریکہ کا شکاری کتابنا ہوا ہے۔

بیسویں صدی عیسوی کے نصف اول میں جب برطانیہ کا آفتاب اقبال نصف النہار پر تھا تو اس نے عالم عرب میں قومیت کا جذبہ بیدار کر کے اپنی سیاسی چالاکوں سے ترکوں کے اقتدار کو ختم کیا اور آل سعود کی خاندانی حکومت اور اسرائیلی سلطنت کو عربوں کے اوپر مسلط کیا۔ اور بالآخر خود اس کا دائرہ اثر سمٹ کر برطانیہ تک محدود ہو گیا۔ کچھ ایسی ہی تاریخ امریکہ کی بھی نظر آرہی ہے کہ اکیسویں صدی عیسوی کے آغاز ہی سے عراق و افغانستان کے شہیدوں کا خون اور مظلوموں کی آہ و بکا اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ امریکہ کا اخلاقی و قانونی زوال جگ ظاہر ہے۔ اقتصادی و تجارتی بحران بھی اس کے تعاقب میں ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ جس طرح افغانستان میں روسی قوت و طاقت کا زعم خاک میں مل گیا اسی طرح امریکہ کے مادی و سائنسی ترقی و جلال و جبروت کا جنازہ افغانی پہاڑوں اور عراقی صحراؤں میں دفن ہو کر رہ جائے۔ قرآن حکیم کی مسلسل اہانت کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے۔ اور اس سے متعلق ساری تحقیقات اور شواہد کو بے بنیاد قرار دیتے رہنے کی امریکی روش بھی کچھ کم عبرتناک نہیں ہے۔ قانون کی بالادستی، مذاہب کا احترام، حقوق انسانی کا تحفظ، آزادی اور جمہوریت کی تبلیغ یہ ساری چیزیں امریکی مظالم کے خونیں بیجوں کی مضبوط گرفت سے کراہ رہی ہیں اور سسک سسک کر دم توڑ رہی ہیں۔

حضرت مزیم، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے احترام کی قرآن حکیم کھلے طور پر دعوت دیتا ہے۔ جگہ جگہ اس نے ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو خدا کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ماننے کا اہل ایمان کو پابند بنانا ہے۔ لیکن ان کے جھوٹے نام لیوا آج اس قرآن کو اور اس کی مقدس تعلیمات کو اپنی قلبی غلاظت و خباثت سے آلودہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسے ٹھوکر مار رہے ہیں اور غضب و قہر الہی کو



دعوت دہر ہے ہیں۔

چودہ سو سال کے اندر اسلامی عبادات کے تعلق سے جو بات کبھی نہیں کہی سنی گئی تھی اس کی آواز امریکہ سے اٹھ رہی ہے۔ عہد رسالت و عہد صحابہ سے اس چودہویں صدی ہجری تک کسی بھی مسلم عورت نے مسجد میں جا کر اذان و خطبہ و جماعت و امامت اور مردوں کے ساتھ صف بستہ ہونے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی مگر اسلام دشمن لابی نے آج کل ایسے جذبات و خیالات کو عملی شکل دینے کی ٹھان رکھی ہے اور اس کے لئے دولت اور میڈیا کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔

سرچشمہ اہانت و امامت بننے والا اور مردوزن کی مساوات کا پرچم بلند کرنے والا امریکہ اور اس کے چھوٹے بڑے حمایتی کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ آخر امریکی تاریخ میں اب تک کسی بھی عورت کو صدر امریکہ کیوں بنایا گیا؟ اور کیا وہ اس کی بھی وجہ بنا سکتے ہیں کہ ابھی چند دنوں پہلے کیوں امریکی انتظامیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج کے کسی حربی شعبہ میں عورتوں کی بھرتی نہیں کی جائے گی؟

سارے عالم اسلام کی طرح ہندوستان میں بھی اہانت قرآن کے خلاف احتجاج و مظاہرہ و جلسہ و جلوس سب کچھ ہوا۔ تقریباً تیس کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے نمائندوں نے مختلف شکلوں میں اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا مگر ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ گجرات کے ظالم و سفاک اور رسوائے زمانہ وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو ویزا نہ دیئے جانے کے امریکی اقدام پر امریکن ایمبیسی واقع نئی دہلی کے ذریعہ سخت احتجاج کرنے والی حکومت ہند اہانت قرآن کے حادثہ پر اس طرح کے کسی عمل یا کسی رد عمل کا مظاہرہ نہ کر سکی۔ اس رویہ سے غفلت و بے حسی ہی نہیں بلکہ تعصب و جانب داری کی تیز بو آرہی ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ حکومت ہند پہلی فرصت میں حکومت امریکہ کے سامنے اپنے سخت رد عمل کا اظہار اور انصاف و جمہوریت کی پاسداری کرے۔

مسلمانان ہند کا متفقہ مطالبہ ہے کہ اہانت قرآن کے مرتکبین کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے اور انہیں ایسی سزا دی جائے کہ کوئی بد بخت و بد باطن شخص آئندہ ایسی گھناؤنی جرات و جسارت نہ کر سکے۔ ساتھ ہی امریکی حکومت کا

فرض ہے کہ وہ عالم اسلام سے اہانت قرآن کے جرم پر بلائیں و پیش واضح طور پر معافی مانگے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاء ہے کہ وہ انسانی قلوب کو احترام قرآن و مطالعہ قرآن و فہم قرآن اور عمل بالقرآن کی طرف پھیر دے۔ اسلام کا بول بالا فرمائے۔ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ شریعت حقہ پر چلنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے اور مجاہدین اسلام و قرآن کو ہدایت دے یا انہیں خائب و خاسر بنائے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

### بین اختر مصباحی

بانی و مہتمم دار القلم، قادری مسجد روڈ، ڈاکنگر، نئی دہلی ۲۵ (انڈیا)

مورخہ ۲۵ ربیع الآخر ۱۴۲۶ھ مطابق ۳ جون ۲۰۰۵ء جمعہ المبارک

موبائل: 09350902937



## قرآن کی اہانت اور صہیونی و صلیبی جذبہ نفرت و عداوت

اس میں شک نہیں کہ مادی و عسکری قوت و طاقت کے اعتبار سے امریکہ اس وقت اپنی تاریخ کے نقطہ عروج پہ ہے۔ سائنس و ٹکنالوجی کے میدان میں مجموعی طور پر دنیا کا کوئی ملک آج اس کا مد مقابل اور حریف وہ مسر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی سرمایہ داری اور شان و شوکت کا پرچم زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لہرا رہا ہے۔ آج کسی ملک بلکہ کسی براعظم میں اتنا دم خم باقی نہیں رہ گیا ہے کہ وہ کھل کر امریکہ سے دودو ہاتھ کر سکے۔ امریکہ اور یورپ اپنے شدید باہمی اختلافات کے باوجود محض ہم مذہب (عیسائی) ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ مصالحتی رویہ اپنا کر دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھنے اور اس پر کنٹرول کرنے کی تک دودو میں مصروف ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے امریکی بالادستی کو خاموشی کے ساتھ قبول کرنے ہی میں یورپ بھی اپنی عاقبت محسوس کر رہا ہے۔

زوال کیوں نہ ہو اور سقوط ماسکو کے بعد امریکہ صرف اسلام کو اپنا حریف و مد مقابل سمجھ رہا ہے اور برطانیہ پورے طور پر اس سلسلے میں اس کا حلیف و ہمو اور حامی و معاون بن چکا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ اسرائیل بھی اپنی فکری و سائنسی توانائی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی اسلام دشمنی کا ایک جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا نمونہ بنا ہوا ہے۔ اس طرح امریکہ و برطانیہ و اسرائیل کا مثلث (ٹکون) اسلام کے خلاف مجاذ آرا و برسر پیکار ہے اور دنیا کے درجنوں اسلام دشمن ممالک کسی نہ کسی طرح اور کسی نہ کسی انداز سے اسلام دشمنی و مسلم دشمنی و عرب دشمنی کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ان کے سازشی و خونخوار ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو رہے ہیں۔

یہودیوں کی صہیونیت اور عیسائیوں کی صلیبیت یا امریکہ کی سی آئی اے اور اسرائیل کی موسد کے درمیان ایک عملی یا خاموش معاہدہ ہو چکا ہے کہ اپنے تاریخی اختلافات سے

قطع نظر کرتے ہوئے اور ملکی مفادات کو ایک حد تک نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں اس وقت صرف اور صرف اسلام کو اپنا نشانہ بنانا ہے۔ قرآن کو مشق ستم بنانا ہے۔ مسلمانوں کو خانقہ و مرعوب کرنا ہے۔ افغانوں کی غیرت ملی کو کچلنا ہے۔ عراقیوں کی حمیت قوی کو خاک میں ملانا ہے۔ عربوں کی توہین و تذلیل کرنی ہے۔ اور جس طرح بھی ہو سکے سارے عالم اسلام کو ذلیل و سرنگوں کر کے شوکت اسلام کا جنازہ نکال دینا ہے۔

افغانستان کو روندنے اور عراق کو خاک و خون میں تڑپانے کے پیچھے صلیبیت و صہیونیت کا یہی جذبہ نفرت و عداوت کار فرما ہے۔ ابو غریب جیل (بغداد) میں انسانیت کو برہنہ و شرمسار کرنے اور گونتانا موہے (کیوبا) میں قرآن و اسلام کی توہین و تذلیل کرنے کی حرکت کوئی یوں ہی ایک غیر متوقع حادثہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کا ابتدائی حصہ اور عالم اسلام کی غیرت و حمیت کو ناپنے کا ایک تازہ ترین آلہ و پیمانہ ہے۔

میڈیا کے ذریعہ اس تعذیب و تذلیل کی تشہیر بھی ایک منصوبہ بند سازش کی تمہید یا ایک ریہرسل ہے جس کے لئے صہیونی و صلیبی عناصر مختلف چروں کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ خود ہی مجرم، خود ہی شاہد اور خود ہی منصف کا رول ادا کر رہے ہیں۔ دھمکی، سردی، تنقید، احتساب، ہم دردی، ٹمگساری، ظلم، جبر، آمریت، جمہوریت، آزادی، پابندی سب کا ٹھیکہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر امریکہ و برطانیہ اور اسرائیل نے لے رکھا ہے۔ امریکہ چند سالوں سے عالم اسلام کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اسے جاننے کے لئے پہلے یہ دو خبریں ملاحظہ فرماتے چلیں۔

نئی دہلی، ۱۲ اپریل (یو این آئی)

امریکہ اور اسرائیل نے اسلام کے خلاف اپنی ایک اور گھناؤنی سازش کے تحت مسلمانوں کو مرتد بنانے کا ایک زبردست منصوبہ تیار کیا ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ ”خبریں“ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس منصوبے کے تحت یہودی اور عیسائی اداروں نے امریکہ اور اسرائیل میں خفیہ طور پر ایک کتاب ”فرقان الحق“ کے نام سے تصنیف کر کے شائع کی ہے اور اسے قرآن پاک کا متبادل

قرار دیا جا رہا ہے۔ اخبار کے خیال میں اس منصوبے کے تحت قرآن کریم کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دینے اور قبائل کے طور پر "فرقان الحق" کو مسلمانوں میں پیش کرنے کے ساتھ نئے قرآن کو ماننے سے انکار کرنے والے اور دین اسلام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے مسلمانوں کے خلاف سیاسی، اقتصادی، جسمانی، عسکری اور ہر قسم کے سخت طریقے تشدد کے لئے استعمال کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اس سازش کے تحت ایک نیا دین متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ایک مشہور مصری اخبار "الاسبوع" نے امریکہ اور اسرائیل کے اس منصوبے کی تفصیلات شائع کی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جارج واکرش کی طرف سے براہ راست احکام ملنے کے بعد مسلمانوں کو مرتد بنانے کے اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہوا۔ یہودی تنظیموں نے شدت پسند عیسائی رہنماؤں اور مفکرین کے ساتھ مل کر امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے اعلیٰ ترین ماہرین کی سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف فکری اور نظریاتی جنگ کرنے کے لئے منصوبے کی تیاری شروع کی اور گذشتہ دنوں یہ لوگ "فرقان الحق" کے نام سے نیا قرآن گڑھنے اور اس کا پہلا ایڈیشن شائع کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کتاب کو خفیہ طور پر تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ کتاب ۱۲ حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ شائع ہو گیا ہے اور بقیہ حصے مستقبل قریب میں شائع کرائے جائیں گے۔

انتہا پسند یہودی تنظیموں نے نئی کتاب کا قرآن پاک سے موازنہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ باور کرا سکیں کہ نعوذ باللہ قرآن آسمانی کتاب نہیں بلکہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اس منصوبے کو آئندہ تین چار برس میں مکمل کرنے کی کوشش جاری ہے۔

اخبار نے لکھا ہے کہ اس دوران امریکہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کو کمزور بنانے اور اسلامی ممالک کو بڑے ہتھیاروں سے پاک کرنے کے نام پر انہیں غیر مسلح کر دے۔ جب کہ اسرائیلی عظیم ایریل شیرون کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ نشانہ بنا کر اسلامی قائدین اور علماء کو قتل کرنے کا کام شروع کر دیں۔ اس کے بعد

اسلامی ممالک پر امریکی اور یورپی حملوں کی بوچھاڑ کی جائے گی تاکہ کم سے کم ہلاکتوں اور نقصانات کے ساتھ ان ملکوں پر قبضہ کیا جاسکے۔

مصری اخبار کو جو خفیہ دستاویزات ملی ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قرآن پاک کے خلاف کھلے عام جنگ لڑی جائے اور اس جنگ میں یہودی اور عیسائی اقوام کا ہر بچہ، نوجوان، بوڑھا اور عورت شرکت کریں۔ کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے سوا ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا اور جنگ کے ذریعہ ہی دنیا سے ان لوگوں کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ منصوبہ کے تحت امریکہ اور یورپی ممالک میں مسلمانوں کے سفر اور رہائش اختیار کرنے پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ "فرقان الحق" قرآن پاک کی آیات میں زبردست تحریف کر کے شائع کی گئی ہے اور مطلب کو سیاق و سباق سے ہٹا کر عجیب و غریب کر دیا گیا ہے۔

جنیوا، ۱۳ اپریل (رائٹر)

اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انسانی حقوق نے مذاہب خصوصاً اسلام کی توہین روکنے کی اپیل کی اور مغرب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف تعصب کی مذمت کی ہے۔ ۵۳ رکنی فورم نے ایک قرارداد منظور کی ہے جسے پاکستان نے تنظیم اسلامی کانفرنس کی جانب سے پیش کیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں ۱۱ ستمبر کے حملوں کے بعد سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی مہم تیزی سے چلائی گئی جو قابل مذمت ہے۔ مغربی ممالک بشمول امریکہ اور یورپی یونین نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور اسے غیر متوازن بتایا جس میں دیگر مذاہب کی مشکلات کا ذکر نہیں ہے۔ او آئی سی کی قرارداد کے حق میں ۳۱ ممالک نے ووٹ دیئے۔ ۱۶ نے مخالفت میں ووٹ دیئے۔ ۵۱ غیر حاضر رہے۔

پاکستان کے ایچی مسعود خان نے ۵ مسلم ممالک کی نمائندگی کرنے والی او آئی سی کی جانب سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مذہب کے بارے میں یہ نظریہ قائم کرنا کہ وہ تشدد کو ہوا دیتا ہے اسے دہشت گردی سے وابستہ کرنا اور اس مذہب کی بے حرمتی ہے۔ اس سے نفرت، تفریق اور عدم اتحاد پیدا ہوتا ہے جو انفسوس کی بات ہے۔

انہوں نے عبادتگاہوں اور مذہبی علامتوں پر حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلام کو بدنام کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا کے بہت سے حصوں میں مسلمانوں اور عربوں کے ساتھ تعصب اختیار کیا جاتا ہے۔

نسل پرستی کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی محقق ڈوڈو ڈین کی ایک حالیہ رپورٹ میں کئی مثالیں دی گئی ہیں جیسے کہ ہالینڈ کی فلمی ڈائریکٹر تھیو وین گوئی کے قتل کے بعد مسلمانوں پر تشدد کیا گیا اور مسلمانوں سے تشدد کا اندیشہ ظاہر کیا گیا۔ اسلام کو خطرے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یورپ میں متعدد اماموں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے۔

کیوبا اور چین کے وفودان ممالک میں شامل تھے جنہوں نے بحث کے دوران قرارداد کی حمایت کی۔ حالانکہ چین پر انسانی حقوق کی تنظیمیں الزام لگاتی ہیں کہ وہاں مسلم اقلیت پر بہت ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کیوبا کے نمائندے اوڈولورانس روڈرگس نے کہا ”اسلام کو بدنام کرنے کے لئے بڑی گہرے عازش چل رہی ہے اس کے لئے صرف پچھلے چند سال کے دوران بالی ووڈ میں بنائی جانے والی فلموں پر ایک نظر ڈال لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔

”امریکہ، کناڈا اور یورپی یونین نے قرارداد کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اس میں خاص طور سے صرف اسلام پر ہی توجہ دی گئی ہے۔ امریکی نمائندے لیونارڈ لیو نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرارداد نامکمل ہے کیونکہ اس میں تمام مذاہب کی صورت حال کا ذکر نہیں ہے۔ ہالینڈ نے یورپی یونین کی طرف سے بولتے ہوئے کہا کہ ان کے بلاک میں مذہبی عدم رواداری انتہائی تشویش کا معاملہ ہے۔ نیز کہا کہ افسوس ہے کہ یورپی یونین او آئی سی کے ساتھ ایک زیادہ متوازن مشترکہ خاکہ پر تعلق نہیں ہو سکی۔ ہالینڈ کے سفیر اہان ڈی جونگ نے کہا کہ مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تعصب کسی ایک مذہب یا دنیا کے کسی ایک حصہ تک محدود نہیں ہے۔“

قرآن حکیم پر اعتراض اور اس کا جواب لکھنے کا یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں بلکہ اس وقت سے جاری ہے جب اللہ کی جانب سے بذریعہ جبریل امین علیہ السلام اس کا نزول

پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا تھا۔ مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ ایزدی چوٹی کا زور لگا کر بھی قرآن حکیم کی کسی ایک آیت کا جواب تیار نہ کر سکے اور انہیں مجبور ہو کر بالآخر یہ کہنا پڑا کہ ”ماخذ الکلام البشر“ یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ یورپ کے مستشرقین اپنی ہزار کوشش کے باوجود قرآن نہیں بلکہ عربی زبان کو ہی اس کے اصل محور سے دور نہ کر سکے تو پھر وہ آیات قرآن کا جواب کیا لکھ سکیں گے؟ اور پھر ان کے حملوں سے قرآن کا کیا بگاڑ سکے گا؟

اسلام اور احکام و مسائل اسلام پہ اعتراضات اور حملوں کا یہ سلسلہ اور مسلمانوں کے ساتھ تعصب اور ان کے تعاقب کی یہ ریت بھی کوئی نئی نہیں ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ورزش صدیوں سے جاری ہے اور آئندہ بھی اس کا تسلسل باقی رہے گا۔ اور اعداء اسلام گذشتہ کی طرح آج اور پھر کل ہر دور میں خائب و خاسر ہی رہیں گے۔ اور ان کے منصوبے خاک میں ملتے ہی رہیں گے۔ انشاء اللہ

۹ مئی (۲۰۰۵ء) کو یہودی لابی کے امریکی جریدہ ”نیوز ویک“ نے یہ خبر شائع کی کہ گوانتانامو بے (کیوبا) کے عقوبت خانہ میں مسلم قیدیوں کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور اسے ٹھوکر مارنے کے ساتھ بیعت الخلاء میں بھی بہایا جا رہا ہے۔ یہ خبر شائع ہو کر جیسے ہی مسلمانوں تک پہنچی ویسے ہی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہونے لگی۔ امریکہ مخالف جذبات کی چنگاری بھڑک اٹھی اور چند ہی دنوں میں اس نے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ احتجاج افغانستان میں ہوا اور افغانی مسلمانوں نے ہی حرمت قرآن کے تحفظ کی راہ میں اپنا خون بھی بہایا جو کل بروز قیامت انشاء اللہ ان کے میزان عمل کی گراں باری حسن عمل اور ان کی نجات و مغفرت کا ضامن ہوگا۔

۱۰ مارچ ۲۰۰۵ء کو جو کچھ ہوا اس کی ہلکی سی جھلک ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

نئی دہلی، ۱۱ مئی۔

گوانتانامو بے جزیرے میں واقع امریکی بحریہ کے اڈے کی جیل میں امریکیوں کے ہاتھوں قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی اور اس کے مقدس صفحات کو غلاظت



ہیں بہانے کے واقعات پر دن بھر شدید رد عمل کا اظہار کیا جاتا رہا ہے اور افغانی عوام کے درمیان اتنا سخت غم و غصہ ہے کہ وہاں بڑے پیمانے پر تشدد و مظاہرے شروع ہو گئے ہیں جن کے دوران چار افغان باشندے ہلاک اور ۵۰ سے زائد زخمی ہو گئے۔

افغانستان کے مشرقی جلال آباد میں ہزاروں مشتعل مظاہرین سڑکوں پر اتر آئے اور انہوں نے سرکاری دفاتروں میں آگ لگا دی۔ دکانیں لوٹ لیں اور اقوام متحدہ کی عمارتوں اور سفارتی مشن پر حملے کیے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے گولیاں چلائیں۔

صوبائی محکمہ صحت کے سربراہ فضل محمد ابراہیمی نے تین اسپتالوں سے طبی اطلاعات کے حوالے سے بتایا کہ ان واقعات میں چار افراد ہلاک اور ۵۲ زخمی ہوئے ہیں۔

پولیس فائرنگ کے بعد مشتعل ہجوم نے آج گورنر کے ایک دفتر کو نذر آتش کر دیا۔ یعنی شاہدین کے مطابق مشرقی صوبہ جلال آباد کے بازار کے وسط میں پولیس کی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس اور صوبائی حکومت کے افسران نے ٹیلی فون پر بتایا کہ احتجاج جاری ہے۔

ان رپورٹوں سے پاکستان میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے کل ایک قرارداد منظور کر کے قرآن کی مبینہ بے حرمتی کی مذمت کی ہے۔ مسٹر عمران خان نے بھی امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعہ کے لئے معافی مانگے۔ ادھر ہندوستان کی راہدہانی دہلی میں بھی شدید غم و غصہ کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اہانت قرآن کے حادثہ پر امریکہ کی سخت مذمت کی جا رہی ہے۔

(روزنامہ قومی آواز، نئی دہلی، شمارہ ۱۲ مئی ۲۰۰۵)

مسلمانوں کے غم و غصہ کی آنچ جیسے جیسے تیز ہوتی گئی اور ان کا احتجاج شدت اختیار کرتا گیا ویسے ویسے امریکی انتظامیہ کی آنکھ کھلتی گئی اور پھر معذرت و صفائی نہیں بلکہ لیپا پوتی اور ہیرا پھیری کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔

نئی دہلی، ۱۳ مئی۔ (یو این آئی)

امریکی وزیر خارجہ ڈاکٹر کونڈولیزا رائس نے کہا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کرنا یا

اسے برداشت کرنا امریکہ کی نہ تو ماضی میں پالیسی رہی ہے اور نہ حال میں اور نہ ہی مستقبل میں ایسا ہوگا۔ انہوں نے سینیٹ کی ایک اہم ترین کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے پہلے خصوصی طور پر اعلان کیا کہ وہ اپنا بیان دینے سے پہلے دنیا بھر کے مسلمانوں سے خطاب کرنا چاہتی ہیں۔

بی بی سی کی اطلاع کے مطابق فارن آپریشنز اور دوسرے پروگراموں کے لئے فنڈ مہیا کرنے والی سینیٹ کی کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے ڈاکٹر رائس نے کہا کہ ہم سب عظیم مذاہب کی مقدس کتابوں کا احترام کرتے ہیں اور قرآن کی بے حرمتی کرنے کو انتہائی قبیح فعل گراتے ہیں۔ ڈاکٹر رائس نے کہا کہ الزام لگایا گیا ہے کہ گوانا نامو بے میں تفتیشی افراد نے قرآن کی بے حرمتی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو صدمہ پہنچایا ہے۔ ہمارے فوجی حکام اس الزام کی پوری طرح سے تفتیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ الزامات درست ثابت ہوئے تو مناسب اقدامات کئے جائیں گے۔

لیکن حقائق بہر حال حقائق ہوتے ہیں انہیں صرف بیان بازی سے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ امریکہ مسلمانوں کے ساتھ جس ذہنیت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ سب اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ امریکی افسران نے جس طرح ابو غریب جیل میں عراقی قیدیوں کے ساتھ شرمناک حرکتیں کی ہیں ٹھیک اسی طرح انہوں نے گوانا نامو بے میں اہانت قرآن کی قابل صدمہ مذمت و نفرتیں حرکت کی ہے۔ یہ یقین صرف عام مسلمانوں کا نہیں بلکہ ان مسلم و عرب حکمرانوں کا بھی ہے جو اس وقت امریکہ کے زیر دام ہیں اور اس کے اشارہ ابرو کے مطابق اپنا اپنا نظام حکومت بنا اور چلا رہے ہیں۔ چنانچہ اندر باہر ہر طرف سے جو آواز بلند ہوتی شروع ہوئی وہ کچھ اس طرح دنیا کے سامنے آچکی ہے۔

نئی دہلی، ۱۳ مئی۔ (یو این آئی)

امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف تعصب کے واقعات میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ یہ دعویٰ کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ بی بی سی نے اس رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف

متعصبانہ ماحول پیدا کر دیا گیا ہے اور اسی متعصبانہ ماحول کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جرائم کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال ۲۰۰۳ء میں مسلمانوں کے خلاف امریکہ میں تعصب کے واقعات میں ۵۲ فیصد اضافہ ہوا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف متعصبانہ جرائم کی تعداد ۲۰۰۳ء کے ۹۳ سے بڑھ کر ۲۰۰۴ء میں ۱۴۱ ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ۲۰۰۳ء میں ۱۱۵۲۲ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن میں مسلمانوں کو ہراساں کیا گیا یا انہیں تعصب کا سامنا کرنا پڑا۔

بی بی سی کے مطابق امریکی مسلمانوں کے ساتھ تعصب کے بہت تھوڑے واقعات باہر کی دنیا تک پہنچتے ہیں اور ان میں چند ہی ایسے ہوتے ہیں جن میں امریکی حکومت کو چھوٹا موٹا اظہارِ انصاف بھی کرنا پڑتا ہے۔ اکثر واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جو میڈیا تک پہنچتے ہی نہیں ہیں اور اگر پہنچ بھی جائیں تو بڑی انتظامیہ برلا کہہ دیتی ہے کہ یہ نجی معاملہ ہے اور ان معاملات میں امریکی حکومت کچھ کہنے سے قاصر ہے۔ جیسا کہ واشنگٹن ٹائمز میں پاکستان سے متعلق کتے والا کارٹون چھاپنے کا معاملہ تھا۔ (اگرچہ متذکرہ کارٹون مسلمانوں سے متعلق نہیں بلکہ پاکستان سے متعلق تھا) اس دلیل میں کمزوری یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعظیم کرنے والے اور انہیں زک پہنچانے والے وہ لوگ ہیں جن کے کندھوں پر چڑھ کر بٹس صدارت تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح کے لوگوں میں پادری پیٹ رابرٹسن جیسے لوگ بھی ہیں جو بائبل بیٹل میں بٹس کے لئے سیاسی زمین ہموار کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے دو ہفتے پیشتر ایک مقبول ٹی وی پر بار بار زور دے کر کہا کہ امریکہ میں مسلمانوں کو عدلیہ یا انتظامیہ میں کوئی ذمہ دارانہ عہدہ نہیں ملنا چاہئے۔ جب ٹی وی میزبان نے ان کو بیان بدلنے یا تردید کرنے کا موقع فراہم کیا تو انہوں نے مزید شدت سے اپنے متعصبانہ موقف کا اعادہ کیا۔ یعنی بقول پادری رابرٹسن کے مسلمانوں کو قانونی سطح پر دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے اور ان کو حکومت میں شامل نہ ہونے دیا جائے۔

واشنگٹن میٹروپولیٹن علاقے میں پچھلے دنوں ہی ہالٹی مور شہر کی انتظامیہ نے شہر کے اسکولوں کے لئے اسلام کے علاوہ ہر مذہب کی چھٹیاں منظور کی ہیں۔ مسلمان

تعلیموں نے اس سلسلے میں کافی زور لگایا تھا لیکن انتظامیہ نے ایک نہ سنی اور صرف مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔

ریاض، ۱۵ مئی۔ (رائٹر)

تنظیم اسلامی کانفرنس نے گوانا نامو بے جیل میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی کے واقعہ کی تحقیقات کر کے قصور واروں کو سزا دئے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ۵۷ مسلم ممالک پر مشتمل تنظیم اسلامی کانفرنس (او آئی سی) نے امریکہ کی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس کو خط لکھ کر اس واقعہ پر حیرانی اور مایوسی کا اظہار کیا۔ اس تنظیم کا صدر دفتر ریاض میں ہے۔ خیال رہے کہ یہودیوں کے زیر انتظام ایک امریکی میگزین نیوز ویک میں خبر آئی تھی کہ امریکہ کی گوانا نامو بے جیل میں قیدیوں سے پوچھ گچھ کے دوران افسران نے قرآن کو بیت الخلاء میں رکھ کر بہا دیا تھا۔ ۲۰۰۱ء میں طالبان کی سابقہ حکومت کے ہٹائے جانے کے بعد سے امریکہ کو افغانستان میں سب سے بڑے احتجاج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

ہر چند کہ امریکہ نے کہا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی قابل نفرت عمل ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا اور کہا ہے کہ فوجی انتظامیہ اس معاملہ کی مکمل جانچ کر رہی ہے لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ جانچ کس کسج پر کرائی جا رہی ہے؟ اس معاملے میں صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف بھی تشویش ظاہر کر چکے ہیں۔ تنظیم اسلامی کانفرنس نے یہاں ایک بیان میں کہا ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے بلکہ شدت پسند عناصر کو حوصلہ ملتا ہے اور اس طرح کے واقعات کو بہانہ بنا کر وہ تشدد کو حق بجانب قرار دے سکتے ہیں۔

ہندوستان کی مختلف تنظیموں، اداروں، شخصیتوں نے اپنے اپنے طور پر شدید رد عمل کا اظہار کیا جس کا ایک نمونہ ذیل میں حاضر خدمت کیا جا رہا ہے۔

ممبئی، ۷ مئی۔ (یو این آئی)

انڈین یونین مسلم لیگ نے وزیر اعظم سے پر زور اپیل کی ہے کہ گوانا نامو بے جیل میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف حکومت ہند امریکہ سے سخت احتجاج کرے



اور مطالبہ کرے کہ قصور وار امریکی حکام کو سخت سزا دی جائے۔ معاملہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن اور دیگر اداروں میں بھی اٹھایا جائے اور آزادانہ عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے۔

وزیراعظم کو ایک تحریری نمائندگی میں انڈین یونین مسلم لیگ کے کل ہند صدر جناب غلام محمود بنات والا نے کہا ہے کہ اس بے حرمتی سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو بے حد صدمہ پہنچا ہے۔ حکومت ہند اپنی ذمہ داری پوری کرنے، حکومت، مسلمانان ہند اور دیگر انصاف پسند لوگوں کے غم و غصہ کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں اپنے دکھ اور جائز مطالبے میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ مسٹر بنات والا نے اس کی بھی مذمت کی ہے کہ حالیہ رپورٹوں کے مطابق امریکی فوجی تفتیش کار اس شرمناک واقعہ سے انکار کرنا اور اسے دباننا چاہتے ہیں۔ در سالہ نیوز ویک نے بہم الفاظ میں اس رپورٹ کی لیباپوتی کی کوشش کی ہے۔ یہ سب کچھ انتہائی غیر اطمینان بخش ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رسالے پر امریکی دباؤ ہے۔ لہذا حکومت ہند اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن و دیگر اداروں میں آزاد عالمی تحقیقات کا مطالبہ کرے۔

اس موقع پر بنات والا نے وزیراعظم کی توجہ دلائی ہے کہ کچھ عرصہ ہو جب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے اپنے ۱۱ویں اجلاس میں تجویز منظور کی کہ مختلف ممالک میں مسلمانوں اور عربوں کے ساتھ امتیازی اور ہتک آمیز سلوک کی تحقیقات کی جائے تو رپورٹوں کے مطابق ہندوستان و ونگ میں غیر جانبدار رہا۔ یہ انتہائی بد بختانہ اور افسوسناک رویہ تھا جس کی حکومت تحقیق کرے اور پالیسی درست کی جائے۔ حکومت ہند سے اپیل کی گئی ہے کہ فوری اقدام کرائے جائیں۔“

عالم اسلام کے شدید دباؤ سے گھبرا کر امریکی انتظامیہ نے جریدہ نیوز ویک کی یہودی انتظامیہ کو مجبور کیا کہ وہ اس خبر کی تردید کرے اور اس کی صحت سے انکار کرتے ہوئے اس نقصان کی تلافی کی کوشش کرے جو اہانت قرآن کی خبر سے ہوئی ہے۔ نیوز ویک انتظامیہ اور امریکی انتظامیہ کا مشترکہ کردار کچھ اس طرح دنیا کے سامنے آیا بلکہ دنیا کی آنکھوں میں دھول چھونکنے کی مشترکہ کوشش کچھ اس طرح منظر عام پر آئی اور دنیا

نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اندر باہر سے آزادی و جمہوریت کا نعرہ لگانے والا امریکہ کتنا شاطر اور کتنا بے جان اور کھوکھلا ہے۔

واشنگٹن، ۱۸ مئی۔ (رائٹر)

وہائٹ ہاؤس نے کل نیوز ویک میگزین سے کہا کہ اس کی اس جھوٹی خبر سے کہ گوانتانامو بے میں امریکی تفتیش کاروں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے عالم اسلام میں امریکہ کی جو بیخ خراب ہوئی ہے اسے درست کرنے میں وہ اس کی مدد کرے۔

نیوز ویک نے کل یہ کہہ کر اپنی رپورٹ واپس لے لی تھی کہ وہ ۹ مئی والی اس رپورٹ کی صداقت ثابت کرنے سے قاصر ہے کہ فوج کی ایک رپورٹ میں قرآن کی بے حرمتی کا ذکر آیا ہے۔ مذکورہ رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ گوانتانامو بے میں تفتیش کاروں نے قیدیوں کو لب کشائی پر مجبور کرنے کے لئے قرآن کا کم از کم ایک نسخہ بیت الخلاء میں بہایا تھا۔

عراق پر امریکہ کی قیادت میں ہونے والے حملہ اور پھر ابو غریب جیل میں عراقی قیدیوں کے ساتھ بد سلوکی کی وجہ سے عالم اسلام میں پہلے سے ہی امریکہ مخالف جذبات پائے جاتے تھے۔ ایسے میں نیوز ویک کی مذکورہ رپورٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور پھر پورے عالم اسلام میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ افغانستان میں مظاہروں کے دوران سولہ افراد ہلاک اور ۱۰۰ سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ گذشتہ ایک ہفتہ کے اندر قرآن کی بے حرمتی والے واقعہ کی مذمت مصر، سعودی عرب، بنگلہ دیش، ملائیشیا اور عرب لیگ نے کی ہے۔

وہائٹ ہاؤس کے ترجمان اسکاٹ میک کلین نے کہا کہ نیوز ویک نے کل جو قدم اٹھایا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ ایک اچھا قدم تھا اور اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ نیوز ویک اس نقصان کو دور کرنے میں مددے جو ہو چکا ہے۔ خاص طور سے اس خطہ میں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاشبہ نیوز ویک اسے دور کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ مسٹر میک کلین نے کہا کہ نیوز ویک کے ذمہ داروں کو یہ بتانا چاہئے کہ کیا ہوا اور کیوں ان سے غلطی ہوئی؟ وہ امریکی فوج کی پالیسیوں اور طرز عمل کے بارے میں بھی بتا سکتے



ہیں۔ امریکی فوج قرآن پاک کا بہت احترام کیا کرتی ہے۔

عالم عرب کے بہت سے حصوں میں امریکہ کی ایجمنٹس ہوئی ہے کیونکہ عراق میں تشدد کا سلسلہ جاری ہے اور گذشتہ سال ایسے انکشافات ہوئے تھے کہ ابو غریب جیل کے امریکی محافظین نے قیدیوں کے ساتھ جسمانی و جنسی ایذا رسانی کی تھی۔ عربوں میں اس وجہ سے بھی ناراضگی ہے کہ افغانستان میں پکڑے جانے والے ۵۰۰ سے زائد قیدیوں کو گوانٹانامو بے قید خانہ میں رکھا گیا ہے۔ ان میں اکثریت عربوں کی ہے۔ انتظامیہ کے افسران اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلم رائے عامہ کو بدنامی انتہائی مشکل ہوگا۔

ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے ۲۰۰۲ء میں امریکی پینٹاگون سے شکایت کی تھی کہ گوانٹانامو بے قید خانہ کی جیل کمپ ڈیٹا میں مسلم قیدیوں کو انسانیت سوز سزا میں دی جا رہی ہے اور ان کے سامنے دیدہ و دانستہ اہانت قرآن کر کے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ مگر امریکہ اس شکایت کو نظر انداز کرتا رہا اور اس کی یہ ہٹ دھرمی اب تک قائم ہے۔

واشنگٹن، ۲۰ مئی۔ (رائٹر)

انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی نے ۲۰۰۲ء میں ہی امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کو یہ بات بتائی تھی کہ گوانٹانامو بے قید خانہ میں امریکی افسران قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ یہ انکشاف ایسے وقت میں ہوا ہے جب "نیوز ویک" میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے بارے میں شائع رپورٹ پر دنیا بھر میں مسلمانوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور بش انتظامیہ مسلمانوں کے غم و غصہ کو سرد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی کے ترجمان سائمن شورنوں نے کہا کہ کمیٹی نے ۲۰۰۲ء میں اور ۲۰۰۳ء کے اوائل میں پینٹاگون کو متعدد بار یہ اطلاع دی تھی کہ گوانٹانامو بے قید خانہ میں شکایت کی ہے کہ امریکی حکام قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ شورنوں نے کہا کہ اگر امریکی حکومت نے بروقت اقدامات کئے ہوتے تو اس طرح کی شکایات کا موقع نہیں ملتا۔ ترجمان نے یہ وضاحت کرنے سے انکار کر دیا کہ آیا ان قیدیوں نے امریکی افسران کے ذریعہ قرآن مجید کو بیت الخلاء میں بہانے یا پوچھنا چھتہ کے دوران قرآن کی

بے حرمتی کرنے کی شکایت کی تھی۔ گوانٹانامو بے کے سابق قیدی اور ان کے وکلاء بارہا یہ الزامات لگاتے رہے ہیں کہ امریکی اہلکار گوانٹانامو بے میں مسلم قیدیوں کو ذہنی اذیت دینے کے لئے قرآن مجید کو بیت الخلاء میں بہا دیتے ہیں۔

پینٹاگون کے افسران نے اس ہفتے کہا تھا کہ وہ اس طرح کے الزامات کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کی تفتیش کی جائے۔ پینٹاگون کے ایک ترجمان برائن وہائٹ مین نے کہا کہ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی نے گوانٹانامو بے میں قیدیوں کی شکایات کے سلسلے میں بہت کم مواقع پر پینٹاگون سے رابطہ قائم کیا۔ اور قرآن کی بے حرمتی کے کسی واقعہ کی یقینی شہادت کبھی نہیں پیش کی۔ حقوق انسانی کے لئے سرگرم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ نیوز ویک میں شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد گوانٹانامو بے اور دنیا میں دوسرے مقامات پر واقع امریکی قید خانوں میں مسلم قیدیوں کے ساتھ کی جانے والی مذہبی تذلیل اور اہانت کی خبریں پس منظر میں چلی گئی ہیں۔

تنظیم کے ریڈر براڈی نے کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں مسلم قیدیوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا کر ان کی تذلیل کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک سابق فوجی مترجم کا حوالہ دیا جس نے الزام لگایا ہے کہ گوانٹانامو بے میں امریکی گارڈ مسلم قیدیوں کے سامنے قرآن مجید کو مسلسل ٹھوکریں مارا کرتے تھے۔

واشنگٹن، ۲۶ مئی۔ (رائٹر)

ایف بی آئی کے ایک ایجنٹ نے ۲۰۰۲ء کی دستاویزات میں لکھا تھا کہ گوانٹانامو بے (کیوبا) کے امریکی بحری اڈے میں رکھے گئے قیدی نے امریکی جیلروں پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے قرآن کے نسخہ کو بیت الخلاء میں بہایا تھا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ یہ الزام قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ دستاویز کل جاری کی گئی ہے جب کہ ایک ہفتہ قبل بش انتظامیہ نے نیوز ویک میں دی گئی اس خبر کو جھوٹا بتایا تھا کہ قیدیوں کو بولنے پر مجبور کرنے کے لئے قرآن کا نسخہ ٹوائٹلٹ میں بہا دیا گیا تھا۔ جس کے بعد میگزین نے بھی یہ کہہ کر مضمون واپس لے لیا تھا کہ وہ اس خبر کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اس واقعہ کی دنیا بھر کے مسلمانوں نے مذمت کی تھی اور افغانستان میں بڑے پیمانہ پر مظاہرہ ہوئے تھے اور

سولہ افراد مارے گئے تھے۔

جونہی دستاویزات جاری کئی گئی ہیں وہ یکم اگست ۲۰۰۲ء کی ہیں جن میں قیدیوں کے ایک روز پہلے کے بیانات کا خلاصہ ہے مگر ان کے نام نہیں بتائے گئے ہیں۔ امریکہ کی سول لبرٹیز یونین نے ”اطلاعات کے حق“ قانون کے تحت حکومت سے ایف بی آئی کے کاغذات حاصل کئے ہیں۔ ایف بی آئی ایجنٹ نے لکھا ہے کہ ”ذاتی طور سے اسے امریکہ سے کوئی پر حاش نہیں تھی۔ مگر قید خانے میں محافظوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ان کا رویہ بہت ہی خراب ہے۔ ۵ ماہ پہلے یہ محافظ قیدیوں کو بری طرح زد و کوب کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن کا نسخہ پانی میں بہا دیا تھا۔ اس میں پٹانگن کے ترجمان لارنس ڈی ریٹانے کہا کہ قیدی کے بیان میں کبھی گئی یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ خصوصاً قرآن والی بات۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی فوج نے ۱۳ مئی کو قیدی سے پوچھا تھا کہ تمہی وہ بہت تعاون کر رہا تھا اور سوالوں کے جواب دے رہا تھا مگر اس نے یکم اگست ۲۰۰۲ء کو ریکارڈ کئے گئے بیان کی تصدیق نہیں۔ انہوں نے کہا وہ نہیں جانتے کہ کیا یہ شخص اپنے الزام سے مکر گیا ہے۔ اس طرح کے گھناؤنے الزامات کہ ہمارے آدمی قیدیوں کو دھمکانے کے مقصد سے قرآن کی بے حرمتی کریں گے ناقابل اعتبار ہیں۔

دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ قیدی اپنے اوپر زیادتیوں اور قرآن کی بے حرمتی کی باتیں اپریل ۲۰۰۲ء سے کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ گوانٹانامو بے میں پہلے قیدی کی آمد کے تین ماہ بعد سے۔ دیگر دستاویزات میں بھی ایف بی آئی ایجنٹوں نے کہا ہے کہ گوانٹانامو بے کے قیدیوں نے امریکی حملہ پر یہ الزام بھی لگائے ہیں کہ وہ قرآن کو ٹھوکریں مارتے ہیں اور اسے زمین پر پھینکتے ہیں اور قیدیوں کو پھینکتے ہیں۔

سول لبرٹیز کے وکیل جمیل جیفر نے کہا ”انسوس کی بات ہے کہ ہم نے پچھلے چند سالوں میں یہ بات جانی ہے کہ گوانٹانامو بے اور دیگر مقامات میں بدسلوکی کے بارے میں قیدیوں کے بیانات امریکی سرکار کے بیانات سے زیادہ سچ ثابت ہوئے ہیں۔ سابق قیدیوں اور موجودہ قیدیوں کے ایک وکیل نے کہا تھا کہ گوانٹانامو بے میں امریکی حملہ نے قرآن کا نسخہ بیت الخلاء میں رکھ دیا تھا تاہم پٹانگن کا کہنا ہے کہ وہ

ان الزامات کا اعتبار نہیں کرتے۔

اپریل ۲۰۰۳ء کی دستاویز میں ایف بی آئی ایجنٹ نے ایک اور قیدی کا بیان لکھا ہے جس میں ایک پوچھا تھا کہ کرنے والی خاتون نیم برہنہ ہو کر قیدی کی گود میں بیٹھ کر فحش حرکتیں کرنے لگی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ قیدی کے چہرے اور سر پر غلاطت بھی مل دی تھی۔ خود گوانٹانامو بے کے ایک سابق افسر نے اپنی کتاب میں اسی طرح کے واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ مگر وائٹ ہاؤس کے ترجمان برائن وائٹ مین اسے ماننے کے لئے تیار نہیں۔

گوانٹانامو بے اور افغانستان کی جیلوں میں ہار ہار مسلم قیدیوں کے سامنے قرآن کی اہانت کی جاتی رہی ہے اور ان کے مذہبی جذبات کو جان بوجھ کر مجروح کیا جاتا رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حرکت کا ایک خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ دیکھا اور جانچا جائے کہ کون قیدی اہانت قرآن پر کتنا مشتعل ہوتا ہے؟ تاکہ اسی پیمانہ سے اس کی ”دہشت گردی“ کا معیار قائم کیا جائے کہ جو جتنے شدید رد عمل کا اظہار کرے وہ اتنا ہی بڑا ”دہشت گرد“ ہے۔

امریکی ویب سائٹ Anti war, cam پر ۱۶ مئی ۲۰۰۵ء میں کالگا کوس کی نشر کی گئی ایک تحریر کا اردو ترجمہ از ظفر الاسلام خان یہاں پیش کیا جا رہا ہے جس سے اہانت قرآن کے تسلسل کے ساتھ امریکی قرآن دشمنی کا گھناؤنا چہرہ کچھ مزید واضح اور بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔

”وہائٹ ہاؤس کی طرف سے صفائی دینے کے باوجود گوانٹانامو بے جیل میں مقدس کتاب کی بے حرمتی کے واقعات، جیسا کہ نیوز ویک کے ۹ مئی ۲۰۰۵ء کے شمارے میں لکھا گیا ہے، قیدیوں کے سامنے اکثر ہوتے رہتے ہیں اور ان کا تذکرہ بھی دوسرے ممالک میں اکثر ہوتا رہتا ہے۔ گوانٹانامو بے (کیوبا) اور بگرام جیل (افغانستان) کے سابق قیدیوں کے کہنے کے مطابق وہاں کے تفتیش کار افسران قرآن پر بیٹھے اور کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ اسے لات مار کر پھینک دیتے ہیں یا اس پر پیشاب بھی کر دیتے ہیں۔

نیوز ویک میں اس رپورٹ کے چھپنے سے پہلے ہی نیویارک ٹائمز نے گوانٹانامو



ناموبے جیل کے ایک اہل کار کے بیان کو بتاریخ یکم مئی ۲۰۰۵ء شائع کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ قیدیوں کے بار بار کے احتجاج سے مجبور ہو کر کمانڈر نے اس واقعہ پر معافی مانگی تھی جب کہ قرآن کریم کو مبینہ طور پر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا تھا اور بیرون تلے روندنا گیا تھا جس کے نتیجے میں گوانٹاناموبے جیل کے قیدیوں نے مارچ میں بھوک ہڑتال کر دی تھی۔ اس واقعہ کے بارے میں نیویارک ٹائمز نے یکم مئی ۲۰۰۵ء کے شمارے میں ایک سابق قیدی ناصر المظیری کا انٹرویو شائع کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ ہڑتال اس وقت ختم کی گئی جب ایک اعلیٰ افسر نے تمام کیمپ والوں سے معافی مانگی تھی۔ نیویارک ٹائمز نے یہ بھی لکھا تھا کہ گوانٹاناموبے کے ایک سابق قیدی شہزاد نے ٹائمز سے ایک انٹرویو میں بھوک ہڑتال اور قرآن کی بے حرمتی اور اس پر معافی کی تصدیق کی تھی (نیویارک ٹائمز، یکم مئی ۲۰۰۵ء)

بھوک ہڑتال اور معافی کے واقعہ کی ایک اور سابق قیدی شفیق رسول نے انگلینڈ کے اخبار ماچسٹر گارڈن (۳ دسمبر ۲۰۰۳ء) کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں تصدیق کی تھی جو اس نے ۲۰۰۳ء میں دیا تھا۔ ایک سابق قیدی جمال الحارث نے بھی لندن کے اخبار ڈیلی میرر (۱۲ مارچ ۲۰۰۳ء) کو دیے ہوئے انٹرویو میں اس کی تصدیق کی تھی۔ بیت الخلاء والے واقعہ کو واشنگٹن پوسٹ (۲۶ مارچ ۲۰۰۳ء) نے افغانستان کے ایک سابق قیدی سے انٹرویو کے بعد شائع کیا تھا جو اس طرح ہے:

”احسان اللہ (عمر ۲۹ سال) نے کہا کہ امریکی فوجیوں نے، جنہوں نے اس سے پہلے قندھار (افغانستان) میں اس سے پوچھنا چاہا تھا اور بعد میں اسے گوانٹاناموبے بھیج دیا تھا، اسے مارا تھا اور طعنہ دینے کے طور پر اور ذہنی اذیت کی غرض سے قرآن پاک بیت الخلاء میں پھینک دیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لئے بہت تکلیف دہ بات تھی۔ ہم نے ان سے بہت منت سماجت کی تھی کہ مقدس قرآن کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔

بیت الخلاء والے واقعہ کی تصدیق گوانٹاناموبے کے ایک سابق قیدی آصف اقبال نے بھی کی تھی جو مارچ ۲۰۰۳ء میں برٹش افسران کے حوالے کیا گیا تھا لیکن اس

کو بعد میں بغیر کسی الزام کے رہا کر دیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ”وہاں پر جو پہریدار تعینات تھے ان کا سلوک قرآن اور ہماری عبادت کی طرف سے ایسا تھا کہ جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ذہنی تکلیف ہو۔ وہ قرآن کو جوتوں سے ٹھوکا مارتے تھے۔ بیت الخلاء میں پھینک دیتے تھے اور عام طور پر اس کی بے حرمتی کرتے تھے۔“ (سنٹر فار کانسٹیٹیوشنل رائٹس، ۱۴ اگست ۲۰۰۳ء)

مراکش کے ایک سابق قیدی محمد مازوز نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کی بگرام جیل میں امریکی فوجی قرآن پر پیشاب کرتے تھے۔ اس بات کو مراکش کے اخبار ”لا گازیٹ“ نے ۱۲ اپریل ۲۰۰۵ء کی اشاعت میں شائع کیا تھا جس کا انگریزی ترجمہ Cage Prisoners نامی ویب سائٹ پر دستیاب ہے جو خود کو غیر مسلکی اسلامی حقوق انسانی ویب سائٹ بتاتا ہے۔ ایک انگریز قیدی طارق درگول نے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جس میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے جو اس نے Cage Prisoners نامی ویب سائٹ سے انٹرویو میں کہی تھی۔ قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ گوانٹاناموبے کے ایک سابق قیدی عبدالرحیم مسلم دوست نے بھی بیان کیا تھا جسے بی بی سی نے ۲۷ مئی ۲۰۰۵ء کو نشر کیا تھا۔

افغان و عراق کو ظالمانہ و جارحانہ طور پر تاخت و تاراج کرنے والا امریکہ نہ ان کے عزائم کو توڑ سکا نہ ان کی غیرت ایمانی کو اپنے قابو میں کر سکا۔ ابو غریب جیل میں اس کی انسانیت کشی اور گوانٹاناموبے جیل میں اس کی اسلام دشمنی طشت از باہم ہو چکی ہے۔ عالم اسلام اس کے خلاف سراپا احتجاج بن چکا ہے اور امریکہ خود اپنے جال میں پھنس کر رہائی اور فرار کی راہیں تلاش کر رہا ہے۔ اگر اس کے اندر ذرا بھی انسانیت اور انصاف و آزادی رائے کی رتس باقی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی انسانیت دشمنی و اسلام دشمنی کے تازہ ترین جرائم کے ارتکاب پر عالم اسلام اور ساری دنیا سے معافی مانگے اور مجرموں کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں قرار واقعی سزا دے۔ قرآن کے ساتھ ہونے والے سنگین مذاق و اہانت کی یہی سزا ہے اور دیر سویر یہ سزا امریکہ کو بھگتنی ہی ہوگی۔ واللہ غالب علیٰ امرہ وهو الغالب القاهر الجبار۔



## عورت کی امامت یا امریکی شرارت؟

یہود و نصاریٰ کی اسلام دشمنی کے مظاہر اور نمونے تاریخ اسلام کے صفحات پہ جا بجا بکھرے ہوئے ہیں اور صہیونی و صلیبی سازشوں و فریب کاریوں نے مسلمانان عالم کے دلوں پہ بار بار کاری زخم لگائے ہیں۔ ان کی کینہ تو ز فطرت، نفرت انگیز سرشت اور مسلم آزار ذہنیت صدیوں سے عالم آشکار ہے اور قرآن حکیم ناطق و شاہد ہے کہ۔

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ وَلَتَهُمْ (سورۃ البقرہ: آیت ۱۲۰) اور ہرگز تم سے یہود و نصاریٰ راضی نہ ہوں گے جب تک ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (سورۃ المائدہ: آیت ۵۱) اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔

شریعت اسلامیہ کے خلاف انگشت نمائی اور اس کے احکام و مسائل کو اپنے حملوں کا نشانہ بنانے میں یہودی و عیسائی ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں۔ باہمی شدید آویزش اور مذہبی و تاریخی اختلاف کے باوجود یہودیوں کی صہیونیت اور عیسائیوں کی صلیبیت اس وقت اسلام کے خلاف عالمی سطح پر متحد ہے اور زندگی کے ہر میدان میں مسلمانان عالم کی پسپائی و ذلت و خواری کی وہ خواہاں اور اس کے لئے اپنے تمام تر جدید وسائل و ذرائع کے ساتھ کوشاں ہے جس کی قیادت دور حاضر کا سب سے بڑا طاغوت امریکہ کر رہا ہے اور پوری بے شرمی و ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صہیونیت و صلیبیت کے ناپاک عزائم اور مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا سب سے بڑا اڈہ بنا ہوا ہے۔ ثبوت کے لئے اس کی ایک تازہ ترین حرکت و شرارت کا نمونہ ذیل میں

حاضر خدمت ہے۔

واشٹنٹن، ۲۵ اپریل (یو این آئی)

امریکہ کی اسرائیل نوازی کو مزید پختہ کرنے کے لئے امریکی کانگریس نے ایک قرار داد منظور کی ہے جس میں مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا ناقابل تقسیم دارالحکومت قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہودیوں کو مسجد اقصیٰ میں اپنی عبادت کرنے کا پورا حق ہے۔

پاکستانی روزنامہ ”خبریں“ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکی اراکین پارلیمنٹ کی قرارداد نمبر ۱۳-۵ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں کسی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو القدس کے اسرائیلی دارالحکومت ہونے کے ساتھ مشروط قرار دیا گیا ہے۔ ڈل ایسٹ اسٹڈی سینٹر کی رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس کا یہ فیصلہ سابقہ تمام قراردادوں کے برعکس ہے۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہودیوں کو القدس میں آزادانہ آنے جانے اور مسجد اقصیٰ میں مذہبی فرائض کی ادائیگی کا حق حاصل ہے۔

قرارداد میں القدس کو تاریخی اعتبار سے اسرائیل کا دارالحکومت ثابت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ القدس ۳۰۰۰ برس سے یہودیوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ کسی دوسری قوم کو اس پر حق جتانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مزید یہ کہ تورات میں اس کا تذکرہ ۶۶ بار آیا ہے جب کہ قرآن مجید میں بیت المقدس پر مسلمانوں کا حق کہیں بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے تمام ادیان کو مذہبی آزادی کا حق دے رکھا ہے لیکن اس نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم نہیں کیا جائے گا، اسرائیل کسی آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا۔ (۲۶ اپریل ۲۰۰۵ء کے اخبارات)

اسلام دشمن عناصر اور مستشرقین نے صدیوں سے احکام و مسائل شرعیہ کو اپنے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا نشانہ بناتے رہنے کی جوہم چھیڑ رکھی ہے وہ اس وقت اپنے دور شباب سے گذر رہی ہے جس کا اظہار پرنٹ میڈیا اور

الکٹر ایک میڈیا کی یا وہ کوئٹوں اور ہرزہ سرائیوں سے شب و روز ہو رہا ہے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ پہلو نمایاں کئے جا رہے ہیں جن سے شریعت اور مسلم جذبات کے مجروح ہونے کا ادنیٰ امکان بھی پایا جا رہا ہے۔ کچھ مسلم ناموں کے پردے میں چھپ کر بھی یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جن میں سے چند نام یہ ہیں۔ آنجمنی حمید دلوانی و سلمان رشدی و انور شیخ اور تسلیمہ نسرین و اینہ و دو و اسراء نعمانی۔ اسی طرح جن مسائل کو آج کل زیادہ مشق ستم بنایا جا رہا ہے ان میں جہاد، تعدد ازدواج، پردہ اور طلاق غلط ہیں۔ ایک مسئلہ کا آج کل تازہ تازہ اضافہ ہوا ہے اور وہ ہے امامت نسواں یعنی نماز میں عورتوں کی امامت۔

۱۸ مارچ کو میڈیا کے اندر اس حادثہ کا بڑا چا ہوا کہ مین ٹینٹن نیویارک (امریکہ) کے ایک گرجا گھر میں ایک افریقی نژاد مسلم عورت اینہ و دو نے سو ڈیڑھ سو عورتوں و مردوں پر مشتمل جماعت کی امامت کی ہے۔ یہ اینہ و دو صاحبہ ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی امریکہ کی پروفیسر اور ”قرآن اور مسلم عورت“ نام کی ایک کتاب کی مصنفہ بھی ہیں۔ مسلمانوں نے کسی مسجد میں انہیں امامت کی اجازت نہیں دی تو ایک گرجا گھر میں مسلح پہرہ کے ساتھ انہوں نے نماز جمعہ پڑھائی۔ شرٹ پتلون میں ملبوس رہنے والی ایک آوارہ گرد امریکی خاتون اسراء نعمانی اس تحریک امامت نسواں کی قائد ہیں۔ مسلم و یک اپ اور مسلم و دمنز فریڈم فورٹام کی دو تنظیموں نے اس مظاہرہ امامت کا اہتمام کیا تھا۔ اخبارات ڈی وی و انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعہ ہفتوں پہلے اس کی تشہیر کی گئی۔ ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا گیا اور اس طرح کے ایک فارم کی بھی شرکاء جماعت سے پیشگی خانہ پری کرائی گئی کہ ”مسلم عورتوں کی آزادی کے لئے اس اقدام کی حمایت کی جاتی ہے“۔ ان ساری تیاریوں کے باوجود شرکاء جماعت کی تعداد ڈیڑھ سو کے اندر ہی محدود تھی۔ اسراء نعمانی اور اینہ و دو کی مسلم معاشرہ میں پہلے ہی کوئی حیثیت نہیں تھی بلکہ ان سے مسلمان نالاں اور سخت بیزار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی جرنلسٹ ڈائیل پرل کی اسراء نعمانی گہری دوست اور اس کی دانشمند بھی تھی۔

بہی میں پیدا شدہ امریکی خاتون اسراء نعمانی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ علامہ شبلی نعمانی کے گھرانے کی ایک فرد ہے لیکن شبلی نعمانی کی ایک پوتی مومنہ سمیل سلطان نے اخباری بیان دے کر اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے خون اور خاندانی رشتہ میں اسراء نعمانی نام کی کوئی لڑکی نہیں ہے۔

میڈیا نے امریکہ سے ہندستان تک کس ہتکارہ کے ساتھ امامت نسواں کا ذکر کیا اور شراغیزی کی کوشش اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ اس وقت میرے سامنے ہے۔ ہندی روز نامہ راشٹریہ سہارا دہلی و کھنڈ کے شمارہ ۲ مارچ میں شائع شدہ ایک تجزیاتی مضمون کا اقتباس ملاحظہ ہو جسے محترمہ سائیکالوجم نے تحریر کیا ہے۔

”امریکہ کے ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی میں اسلامیات کی پروفیسر ڈاکٹر اینہ و دو نے نیویارک کے ایک قصبہ مین ٹینٹن میں مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کر ایک تاریخ لکھ دی ہے۔ مسلمانوں کے ایک طبقہ کا ماننا ہے کہ اس طرح کی نہ تو کوئی مثال ہے نہ ہی اس کی اسلام میں اجازت اور دوسری طرف اینہ و دو ان کے حمایتیوں کی دلیل ہے کہ اس طرح کی مثال اسلام میں ہے مگر مردوں نے مذہبی باتوں کی اپنے حساب سے تشریح کر کے اسے دبا دیا ہے۔“

اینہ و دو کے نماز پڑھانے کا انتظام امریکی مسلمانوں کی تنظیم پروگریسیو مسلم یونین نے کی تھی۔ یونین نے ۲۷ جون ۲۰۰۳ء کو ویسٹ ورجینیا کے مارگن ٹاؤن کی مسجد میں عورتوں کو صدر دروازہ سے داخل کرایا تھا۔ پہلے انہیں پچھلے دروازہ سے آنے اور پھر سب سے پچھلی قطار میں کھڑے ہونے کی اجازت تھی۔ اس سال یہ تنظیم عورتوں کی امامت سمیت انہیں مذہبی رہنما بننے کا حق دلانے کے لئے جدوجہد کر رہی ہے۔

دنیا کی کئی تنظیموں نے اینہ و دو کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ امریکہ میں نیوجرسی پبلک اسکول کے حسن عبدالغفار کا کہنا ہے۔ یہ وقت کی مانگ ہے۔ کناڈا کے ٹورنٹو میں ریسرچ کر رہی عرشہ اعظم کہتی ہیں۔ ہمیں اب اس طرح کی جماعت بنانی چاہئے اور مجھے فخر ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں۔ نیویارک میں مسلم ریفارم موومنٹ

آرگنائزیشن چلانے والے سلطان حمید بھی امینہ اور پروگریسو مسلم یونین کو روایت گھنٹی کی مبارک باد دیتے ہیں۔

بہر حال! امینہ کے مخالفوں کی تعداد کم ہے اور وہ اس کے حمایتیوں جیسے اہم نہیں ہیں۔ عورتوں کے حقوق پر بحث چھڑنے سے انہیں اپنے حقوق حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ یقیناً یہ اسلام کے مساوات کے اصول کو عملی جامہ پہنانے کی جہت میں اہم قدم ہے۔ (ہندی روزنامہ راشٹریہ سہارا، شمارہ ۲۲ اپریل ۲۰۰۵ء)

اس تجزیاتی مضمون کے آخری دو دنوں پیراگرافوں کو غور سے پڑھئے اور بار بار پڑھئے۔ جس سے بیک وقت کئی حقائق آپ کی نظر میں واضح گف ہو جائیں گے کہ شریعت نا آشنا اور اسلام پیزار طبقات کے نام نہاد دانشوروں اور صحافیوں کا انداز فکر اور طریقہ کار کیا ہے؟ وہ صداقت و واقفیت کا گلا گھونٹ کر کسی مسئلہ اور واقعہ کو اپنی سوچ کے مطابق کس طرح پیش کرتے ہیں؟ کس طرح وہ انحراف پسندوں کو اکساتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ علم شریعت و اتباع شریعت سے کوسوں دور رہنے والوں کو وہ کس طرح اسلامی اسکار کا تمغہ اعزاز عطا کرتے ہیں؟ کس طرح وہ ناقابل اعتناء تعداد کو اکثریت بلکہ بمنزلہ کل شمار کرتے ہیں اور اسے ہی قوم و ملت کی آواز قرار دیتے ہیں؟ حقوق اور آزادی کے نام پر وہ کس طرح خام ذہن اور غافل افراد کا شکار کرتے ہیں؟ اور مساوات کے پردے میں وہ انتشار و انار کی پھیلانے کی کیسی گھناؤنی حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں؟

اسراء نعمانی اور امینہ دو دوزخ عورتوں کی امامت کا فتنہ جس انداز سے چھیڑا ہے وہ صلیبی و صیہونی شیطنت اور بالفاظ دیگر امریکی شرارت کا ایک تازہ نمونہ ہے۔ اس فتنہ تازہ اور اس کے اصل کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک اردو صحافی نے لکھا ہے کہ۔

”اسراء نعمانی جو ایک صحافی ہے کچھ دنوں قبل اپنی دو کتابوں کی وجہ سے جہے میں آئی تھی۔ اس نے ’نامتربیکا‘ نامی ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے ہندو اور بودھ مذہب میں ’جنس پرستی‘ کی تفصیلات پیش کی تھیں۔ اس کتاب کو تحریر کرنے کے لئے اسراء نعمانی نے سادھوؤں، سنتوں، بودھ بھکشوؤں، لاماد وغیرہ سے

ملاقات کر کے ان کی جنسی خواہشات کی تفصیلات حاصل کی تھیں اور ان کے ساتھ اپنی خود کی جنسی بد اعمالیوں کے تجربات جوڑ کر پختارے دار زبان میں کتاب تحریر کی تھی۔ اس نے اس کتاب میں تحریر کیا ہے کہ ایک عرصے تک اس کے ذہن میں بودھ یا ہندو دھرم اپنانے کا خیال بھی تھا۔ اس کتاب کے بعد اس نے ’مکہ میں تہا کھڑی عورت‘ کے نام سے ایک تنازعہ انگریزی کتاب تحریر کی جس کا موضوع سفر حج کے دوران مسلم عورتوں کو لاحق پریشائیاں تھیں۔ اس کتاب میں ہی اس نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جب حج کے دوران عورتیں اور مرد ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو مسجدوں میں کیوں نہیں؟

اسراء نعمانی نے ہندستان کے سفر کے دوران افغانستان جا کر جنگ کی رپورٹنگ کی تھی اور اس دوران پاکستان میں اس کا تعلق ایک یہودی صحافی ڈینیئل پرل کے ساتھ ہو گیا۔ وہ ایک عرصے تک پرل کے ساتھ رہی۔ پرل کے قتل سے کچھ پہلے جب وہ امریکہ گئی تو حاملہ تھی۔ اس نے غیر شادی شدہ رہتے ہوئے ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام ’شلی‘ رکھا۔ اس طرح کا شبہ کیا جا رہا ہے کہ اس بچے کا باپ مقتول یہودی صحافی پرل ہی تھا۔

امریکہ میں ہی اسراء نعمانی نے ایک مسجد میں صدر دروازے سے جبراً داخل ہو کر مردوں کی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس مسجد کو بنوانے میں اس کے باپ کی محنت اور پیسہ لگا ہے اور وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی حقدار ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ یہ تحریک چھیڑے گی کہ صرف امریکہ نہیں بلکہ دنیا بھر کی مسجدوں میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ نماز ادا کریں۔ اس مقصد کے لئے اس نے مذکورہ دونوں تنظیموں (مسلم ویک اپ اور مسلم دو مینز فریڈم ٹور) کا قیام کیا اور امینہ دو دوسمیت متعدد عورتوں کو اپنی اس تحریک میں شامل کر لیا۔

امینہ دو دوزخ کی امامت میں نماز جمعہ کے بعد اسراء نعمانی نے مسلم عورتوں کے لئے ایک ”چارٹرڈ آف ڈیمانڈ“ بھی پیش کیا جس میں اس نے دس مطالبات رکھے، جس



میں ایک مطالبہ مسجد میں عورتوں کے صدر دروازے سے داخل ہونے اور مردوں کے شانہ بشانہ نماز پڑھنے اور امامت کرنے کا بھی تھا۔ کئی علماء کرام نے ایسے دو دو اور اسراء نعمانی کو اسلام میں تحریف کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں اسلام کے نام پر ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈال رہی ہیں۔ اس فرقہ کو فرقہٴ ودودیت نعمانیت کہا جاسکتا ہے۔ اس نئے فرقے میں شامل عورتوں کا کہنا ہے کہ عورتیں مردوں سے گلے مل سکتی ہیں اور مخلوط نماز پڑھ سکتی ہیں۔ بن بیاہی ماں بننا بھی اسراء نعمانی کی نظر میں جائز ہے۔

اب یہ دونوں عورتیں اپنی اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے سرگرم ہیں۔ امریکہ، پھر یورپ اور اس کے بعد ہندستان اور پاکستان ان کے نشانے پر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس اسلام دشمن سرگرمی میں یہودی اور کٹر عیسائی ان کے ساتھ ہیں اور سارا خرچ بھی وہی اٹھا رہے ہوں گے۔ (روزنامہ اردو ٹائمز، بمبئی، شمارہ ۲۷/مارچ ۲۰۰۵ء)

زنانہ امامت کا دوسرا مظاہرہ کناڈا کے شہر ٹورنٹو میں ہوا جس کی خبر اخبارات میں اس طرح شائع ہوئی۔

ٹورنٹو ۲۶ مارچ (یو این آئی)

کناڈا میں ایک اور مسلم خاتون نے روایتوں کو توڑتے ہوئے نماز جمعہ پڑھائی۔ گذشتہ ہفتہ ہی نیویارک کی ایک مسلم پروفیسر نے نماز جمعہ پڑھائی تھی جس پر زبردست احتجاج ہو چکا ہے۔ ٹورنٹو کی اسلیمہ علاء الدین مجید نے کل اتو بیکو کی ایک مسجد میں عورتوں اور مردوں کے سامنے خطبہ پڑھا۔ عام طور پر مسلم عورتیں نماز نہیں پڑھایا کرتی ہیں اور محض چند مساجد میں ہی وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اسلیمہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا 'مجھے افسوس ہے۔ میں پہلی مرتبہ خطبہ پڑھ رہی ہوں۔ مصلیوں نے ان کا استقبال کیا۔ مردوں میں سے ایک نے کہا 'ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تقریباً ۳۵ سال کی اسلیمہ کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ایک جوان لڑکی نے کہا 'ٹھیک ہے۔ خطبہ پڑھ لینے کے بعد اسلیمہ نے کہا 'یہ کرنے کے لئے بہت حوصلے کی ضرورت چڑی ہے۔ ہمیں سرعام بولنے کی عادت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا اور بیٹی

تھے۔ اسلیمہ کے بیٹے طیم نے عقیدت کے ساتھ ان کا بوسہ لیتے ہوئے کہا 'مجھے اپنی والدہ پر فخر ہے۔ عام حالات میں وہ ہمیں تقریریں تیار کرنے میں مدد دیتی ہیں اور آج یہ کام خود انہوں نے کیا ہے۔ ان کے وطن گیانا (افریقہ) میں اسلیمہ کے والد نماز پڑھایا کرتے ہیں۔ اسلیمہ نے کہا 'میں اپنے والد کو خطبہ پڑھتے ہوئے سنا کرتی تھی اور میری یہ خواہش تھی کہ ان کی طرح میں بھی ایک دن خطبہ پڑھوں۔ آج میرا یہ خواب پورا ہو گیا۔

انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس زمانہ میں مخلوط نماز نہیں ہوا کرتی تھی اور نماز کے دوران عورتیں مردوں سے الگ پردہ میں رہا کرتی تھیں۔ اتو بیکو کی مسجد کے امام جبار علی ندوی امور میں خواتین کو مساویانہ حقوق دینے کے خواہشمند رہے ہیں۔ یہ مسجد چھوٹی ہے لیکن اس کے مصلیوں میں زیادہ تر جوان لوگ ہیں۔ اسلیمہ نے کہا 'میں جانتی ہوں کہ یہاں ہماری تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یا تو میں یہاں آؤں اور احترام پاؤں یا پھر کسی بڑی مسجد میں جاؤں اور وہاں کوڑے جیسا سلوک ہو۔ دیگر مساجد میں عورتوں کو ہمیشہ بیسمنٹ میں جانے کو کہا جاتا ہے یا ان جگہوں سے دور رکھا جاتا ہے جہاں نماز ہوتی ہے۔

مقدار نہیں معیار کی اہمیت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ قیادت عورتیں کریں، لیکن اسلیمہ کے منبر چڑھنے سے پہلے تین عورتوں نے ایک عورت کے نماز پڑھانے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مسجد سے واک آؤٹ کیا تھا۔ اسلیمہ کی حامی رفیقہ کا کہنا ہے 'میں نے ان سے کہا کہ عورتیں آج چاند پر جا رہی ہیں۔ عورتیں ڈاکٹر بن کر زندگیاں بچا رہی ہیں۔ عورتیں وہ سب کچھ کر رہی ہیں جو مرد کیا کرتے ہیں۔

کناڈا میں مساوات کے لئے چلائی جانے والی خواتین کی جدوجہد میں یونائیٹڈ مسلم ایسوسی ایشن پیش پیش ہے اور امام جبار علی اس کے روح رواں ہیں۔ قبل ازیں اسی مسجد میں مریم مرزانا می ایک مسلم لڑکی نے عید کا آدھا خطبہ پڑھ کر تاریخ بنائی تھی۔ امام جبار نے کہا 'یہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اسلیمہ نے نماز جمعہ پڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں آج ایسے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اٹھارویں کو پہنچ کرنا

چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا میں یہ پاتا ہوں کہ لوگ ماضی میں جی رہے ہیں۔ اس تنظیم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم تبدیلی کے خواہشمند ہیں۔ (۲۷ مارچ ۲۰۰۵ء کے اخبارات)

مسجد میں مرد و عورت مقتدیوں کی اور نماز جمعہ کی امامت کا حق عورتوں کو دینے دلانے کا راگ تاریخ میں پہلی بار امریکہ کے اندر لاپا گیا ہے جس کی گونج کناڈا تک پہنچ چکی ہے۔ شریعت اسلامیہ کے کسی بھی فقہی مذہب میں اس طرح کی امامت کا کوئی جواز اور کسی طرح کی کوئی گنجائش نہ پہلے ہی نہ اس وقت ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ کی مقدس خواتین اسلام نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مسجد میں جا کر نماز بخگانہ یا نماز جمعہ کی امامت کا فریضہ انجام دے کر مردوں کی ہمسری اور ان سے ہر چیز میں مساوات کا دعویٰ کریں۔

عورتیں مسجد کے مدر دروازے سے داخل ہوں، جماعت کی اگلی صف میں شریک ہوں۔ خطبہ دیں، امامت کریں۔ یہ اور اس طرح کے سارے فتنے مساوات مرد و زن کے نام پر کھڑے کئے جا رہے ہیں۔ اور ان پر فریب ترغیبات و مطالبات کے ذریعہ دفتروں، کارخانوں، بازاروں کے بعد اب مذہبی عبادت گاہوں میں بھی عورتوں کو ان کا وہ حق دلانے کے جتن کئے جا رہے ہیں جو نہ ان کا شرعی حق ہے نہ اس کا کوئی اخلاقی جواز ہے۔

جہالت کی انتہا یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں لے جا کر ان سے نماز جمعہ پڑھوائی جا رہی ہے جب کہ نماز جمعہ عورتوں پر فرض ہی نہیں ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے انہیں امامت سے بھی آزاد رکھا ہے جس کے اندر بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ عورتوں کے مخصوص ایام انہیں ہر ماہ ہفتہ عشرہ تک اپنے جال میں الجھائے رکھتے ہیں۔ حمل و ولادت اور رضاعت وغیرہ کی ذمہ داریاں اور انہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان حقائق کو کیوں کر نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟ اور ان کے نسوانی مسائل و مصائب سب پر عیاں کرتے رہنے کو کیوں کر گوارا کیا جاسکتا ہے؟

مرد کی صفوں میں گھس کر نماز پڑھنے اور اجنبی مردوں کے شانہ بہ شانہ کھڑے

ہونے کی کوشش کتنی غیر مذہبی اور غیر اخلاقی ہے اسے کسی ذی شعور اور باہوش انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی مرد یا عورت کے دائیں بائیں اس کے صنف مخالف کی موجودگی اور بدن کانس سے عبادت کے دائرہ سے باہر نکال کر لذت و شہوانیت کی جس تصوراتی دنیا میں پہنچا سکتا ہے اس کی نشاندہی اور وضاحت کی بھی ادنیٰ ضرورت نہیں ہے کہ اس محسوس حقیقت کو ایک عام انسان بھی خوب اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہی امینہ و دودو و اسراء نعمانی کو اسلام مخالف عناصر نے مہرہ بنا کر یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ اور اس کے پیچھے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ذہن منتشر کیا جائے اور ان کی عبادت کو رفتہ رفتہ مکدر اور داغ دار بنا دیا جائے۔

امریکہ و کناڈا کی زناہ امامت کی تشہیر کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ حجاب و اسکارف کے ساتھ شریک جماعت ہو کر نماز پڑھتی ہوئی عورتیں اور ان کے تصویری مناظر میں صرف امامت پر اس وقت ساری توجہ مرکوز ہے کہ ان جرأت مند عورتوں نے ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے اور انہیں اس کا حق ملنا چاہئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس موقع پر حجاب و اسکارف کی طرف کوئی انگشت نمائی نہیں ہو رہی ہے جس کے خلاف مغربی ذرائع ابلاغ بلکہ حکومتیں بھی داویلا چاتی رہتی ہیں اور اسے کٹرنڈ ہب پرستی بلکہ آج کل دہشت گردی کی ایک علامت بھی قرار دیتی ہیں۔ یہ طرز فکر عمل ایسا ہے جو خود اپنی نیت اور اپنا مقصد دودو و چار کی طرح واضح کر دیتا ہے۔

آج کل کچھ عورتوں پر مذہب اور تاریخ کی نسوانی تعبیر و قیادت کا خط سوار ہے۔ اور آوارہ فکر مرد انہیں اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی غرض سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ مساوات مرد و زن کا جھنڈا بلند کرنے والے مرد بھی دراصل عورتوں کے استحصال کا ہی جذبہ رکھتے ہیں۔ یورپ میں جب صنعتی انقلاب برپا ہوا تو ملازمت کی شکل میں عورتوں کا استعمال شروع ہوا اور ان کی اجرت مردوں سے آدھی رکھی گئی کیوں کہ وہ ماہانہ اور طرح طرح کے عوارض کا شکار رہتی ہیں اور انہیں اپنے نسوانی مسائل کی وجہ سے بار بار اپنے اپنے آنسو اور فیکٹریوں سے چھٹی لینے پڑتی

ہے۔ علاوہ انہیں ان کی جسمانی ساخت بھی مردوں جیسی محنت اور سختی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح اجرت کی کمی رفتہ رفتہ ایک مسئلہ بن گئی اور مساوات کا نعرہ بلند ہوا کہ مرد و زن دونوں کی اجرت برابر ہونی چاہئے۔ اور آگے چل کر اس نعرہ کے سہارے دیگر معاملات و شعبہ ہائے حیات میں بھی مساوات مساوات کی بات چل نکلی جو ایک اخلاقی بحران کی شکل میں دنیا کے سامنے آچکی ہے۔ اور ہمارے بہت سے نام نہاد مسلم دانشور و صحافی اور مسلم نوجوان بھی اس پروپیگنڈہ کا شکار اور لاکھ کار بننے رہتے ہیں۔

انہیں یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کی ہر مخلوق ہر چیز میں مساوی اور برابر نہیں ہے۔ کیا انسان و حیوان، نبات و جماد، ابرو باد، صحرا و دریا، وادی و کوہ، اور زمین و آسمان مخلوق الہی ہوتے ہوئے بھی آپس میں برابر ہیں؟ اور کیا سارے انسان بلکہ ہر ملک و قبیلہ کے انسان اپنی صفات و خصوصیات میں برابر ہیں؟ اسی لئے اسلام ہر چیز میں مساوات نہیں بلکہ عدل کا قائل ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اسے دیا جائے۔ ہر طرح کے انسانوں کے درمیان اور مرد و زن کے درمیان اگر کوئی مساوات ہے تو وہ مساوات آدمیت ہے کہ سب کے سب فرزند آدم ہیں لیکن ان کے حقوق و فرائض الگ الگ ہیں۔ ان کے درمیان مساوات انسانیت ہے نہ کہ مساوات حقوق و فرائض! اور ان سارے مرد و زن کے لئے ایمان و عمل صالح ضروری ہے جس کے مطابق وہ اپنی جزا کے مستحق ہوں گے۔

ہر شعبہ اور ہر ذمہ داری میں مساوات کا نعرہ ایک بہت بڑا عالمی فریب ہے جو عورت کو گھر سے باہر نکال کر بازاروں، فیکٹریوں اور آفسوں میں ان کے بے روک ٹوک استعمال و استحصال کی ذہنیت کا غماز ہے۔ عورت کی ہمدردی کے نام پر اس کے ساتھ کھلا ہوا ظلم ہے۔ اس کی نسوانیت کو سر عام نیلام کرنے اور دنیا بھر میں اخلاقی اتار کی پھیلائی کی ایک گہری سازش ہے جس کے پس پردہ یقینی طور پر یہودی ذہن کا فرما ہے۔ جس کی ہمنوائی کرنے والے سبھی شاطران افرنگ کا حال یہ ہے کہ۔

پتے ہیں لہذا دیتے ہیں تعلیم مساوات

کیا مذہبی یا تخلیقی کسی بھی لحاظ سے مرد و زن کے مساوات کی کوئی حقیقت ہے؟ اگر ہے تو پھر ان سوالات کا جواب دیا جائے کہ۔

- (۱) حضرت آدم جو دنیا کے پہلے انسان اور پہلے مرد ہیں ان سے ہی نسل انسانی کی ابتداء کیوں ہوئی؟
- (۲) تاریخ انسانی کے کسی دور میں کسی عورت کو پیغمبرانہ منصب کیوں نہیں دیا گیا؟
- (۳) ماہانہ مشکلات و مصائب عورت ہی کے لئے خاص کیوں ہیں؟
- (۴) زچگی کا سارا بار عورت ہی پر کیوں ڈالا گیا ہے؟
- (۵) کیا یہ ممکن ہے کہ میاں بیوی باہمی رضامندی کے ساتھ حمل و ولادت و رضاعت کی باری مقرر کر کے اپنی ازدواجی زندگی گزار سکیں؟
- (۶) کیا تاریخ انسانی کے کسی دور میں میدان جنگ کے اندر عورتوں نے مردوں کے شانہ بہ شانہ کبھی کوئی مساویانہ حصہ لیا ہے؟
- (۷) کیا آج کے اس دور ترقی میں بھی کوئی ملک اس کے لئے تیار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بحری و بری و فضائی فوج کا نصف حصہ اپنی تعلیم یافتہ و فوجی تربیت یافتہ عورتوں کے سپرد کر سکے؟

عورت کی ساری حرمت و فضیلت یہی ہے کہ وہ عورت بن کر رہے۔ اپنے نسوانی وقار کی حفاظت کرے۔ اپنی عفت و پاک دائمی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھے۔ شاطرانہ خیالات و نظریات کے فریب میں نہ آئے۔ نسوانی شکار گاہوں کی طرف بھول کر بھی کوئی قدم نہ بڑھائے۔ اپنے جائز حقوق جائز طریقوں سے حاصل کرنے کے ساتھ اپنے اوپر عائد شدہ فرائض کو انجام دے۔ اور کبھی بھی مرد بننے کی کوشش نہ کرے کہ اس طرح وہ اپنی نسوانیت اور اپنی شناخت بھی کھو بیٹھے گی اور انجام کار اسے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

مرد و زن دونوں کے الگ الگ خصائص و فضائل، عادات و اطوار اور احکام و مسائل ہیں جنہیں خلط ملط نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں تک کہ ظاہری طور پر بھی ان کی وضوح



قطع الگ الگ ہے جس کے اندر ایک دوسرے کی مشابہت شرعاً ممنوع اور اخلاقاً سخت معیوب ہے۔ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (صحیح بخاری)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی وضع قطع اختیار کریں اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی وضع قطع اپنائیں۔

☆☆☆

## امریکی اعتراف و اقبالِ جرم

واشنگٹن ۳۱ جون (رائٹر)

امریکی فوج نے پہلی بار تفصیلات فراہم کی ہیں کہ گوانٹانامو میں جیل حکام نے کس طرح قرآن کی بے حرمتی کی۔ کس طرح ایک گارڈ کے پیشاب کے چھیننے اس مقدس کتاب پر پڑے اور کس طرح اسے ٹھوکر لگائی گئی۔ اسے قدموں سے روندنا گیا اور پانی میں پھینکا گیا۔

حکام نے کل ایک بیان میں کہا کہ کیوبا کی گوانٹانامو خلیج میں امریکی بحری اڈے پر غیر ملکی مشتبہ دہشت گردوں کی جیل کی حفاظت پر مامور امریکی جنوبی کمان نے امریکی عملے کے ہاتھوں قرآن کی بے حرمتی کے پانچ معاملوں کی تفصیلات بتائی ہیں جن کی ابھی ابھی ختم ہونے والی فوجی تفتیش نے توثیق کر دی ہے۔

جنوبی کمان نے پیشاب سے متعلق واقعہ کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ مارچ میں ایک محافظ اپنی ڈیوٹی کی جگہ چھوڑ کر باہر نکلا اور ایک روشن دان کے پاس پیشاب کرنے لگا جس کے چھیننے ہوا کے ساتھ اڈہ کی جیل کی کونٹری میں پہنچے۔ بیان کے مطابق ایک قیدی نے گارڈوں کو بتایا کہ پیشاب کے چھیننے اس کے منہ اور قرآن پر پڑے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قیدی کو ایک نئی وردی اور قرآن دیا گیا اور مذکورہ گارڈ کو تنبیہ کی گئی اور اس کی ڈیوٹی بدل دی گئی۔

گوانٹانامو کے ایک فوجی ترجمان کیپٹن جان ایڈمز نے بتایا کہ تفتیش میں اسے ایک ”اتفاقی واقعہ“ قرار دیا گیا ہے۔ جنوبی کمان نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک غیر فوجی تفتیش کار نے جسے کنٹریکٹ بر رکھا گیا تھا جولائی ۲۰۰۳ء میں ایک قیدی سے اس کے قرآن پر پیر رکھنے پر معافی مانگی تھی۔ اس تفتیش کار کو بعد میں سبکدوش

کر دیا گیا تھا۔

بیان کے مطابق اگست ۲۰۰۳ء میں قیدیوں کے پاس موجود قرآن اس وقت بھیگ گئے تھے جب رات کی شفٹ میں کام کرنے والے گارڈوں نے کوٹھریوں میں پانی کے غبارے پھینکے تھے۔ فروری ۲۰۰۲ء میں جیل کے محافظوں نے ایک قیدی کے پاس موجود قرآن کو ٹھوکر ماری تھی۔

قرآن کی بے حرمتی کے پانچویں مصدقہ واقعہ کے بارے میں جنوبی کمان نے کہا کہ ایک قیدی نے اگست ۲۰۰۳ء میں شکایت کی تھی کہ اس کے قرآن پر کسی نے انگریزی میں جنس الفاظ لکھ دیئے ہیں۔



# جمعیت اشاعت اہلسنت کی سرگرمیاں

## مدارس حفظ و ناظرہ

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

## درس نظامی

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے تحت صبح اور رات کے اوقات میں ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی درس نظامی کی کلاسیں لگائی جاتی ہیں۔

## دارالافتاء

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے تحت مسلمانوں کے روزمرہ کے مسائل میں دینی رہنمائی کے لئے عرصہ چھ سال سے دارالافتاء بھی قائم ہے۔

## مفت سلسلہ اشاعت

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتدر علماء اہلسنت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہے۔ خواہش مند حضرات نور مسجد سے رابطہ کریں۔

## ہفتہ واری اجتماع

جمعیت اشاعت اہلسنت کے زیر اہتمام نور مسجد کا غدی بازار میں ہر جمعہ کو 9:30 تا 10:30 ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس میں ہر ماہ کی پہلی اور تیسری بیکر درس قرآن ہوتا ہے جس میں حضرت علامہ مولانا عرفان ضیائی صاحب درس قرآن دیتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی دو جمعہ مختلف علماء کرام مختلف موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔

## کتاب و کیسٹ لائبریری

جمعیت کے تحت ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علماء اہلسنت کی کتابیں مطالعہ کے لئے اور کیسٹیں سماعت کے لئے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات تابخط فرمائیں۔